

# ڈوستی ہوئی پچان

افسانے

حسانہ انیس



# ڈوبتی ہوئی پہچان

حساناہ انیس

## افسانے

پیش خدمت یے کتب خانہ گروپ کی طرف سے  
ایک اور کتاب ۔

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں  
بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے

<https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share>

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068 

@Stranger 

Doobti Hui Pehchaan  
(A collection of short stories)

By: Hassana Anis

انیس الحق، فلیٹ نمبر 4، اتحاد آرکیڈ، بلاک 7، گلستانِ جوہر، کراچی - 73290

فون نمبر: 8125182  
4625182

□ جملہ حقوق  
پروفیسر انیس الحق (محفوظ) ©

□ اہتمام  
 محمود واجد

□ اشاعت  
 دسمبر 2003ء

□ کتاب  
 ذوبتی ہوئی پہچان (افسانے)

□ مصنف  
 حسانہ انیس

□ سرور ق  
 حنا

□ کپوزنگ  
 عامر شہزاد

□ تعداد  
 پانچ سو  
 853  
 H41 DD  
 □ قیمت  
 150 روپے (15 دالر، 10 پاؤ نم)

□ مطبع  
 احمد برادرز پرنٹرز - ناظم آباد، کراچی  
**ZAIN PUBLICATIONS**  
A-8, Nadeem Corner, Block-N,  
North Nazimabad, Karachi-74700.  
Phone: 6645177, 6679796.

## انتساب

اپنے وقت کے مقبول افسانہ نگار

والد محترم پروفیسر محمد مسلم عظیم آبادی

کے نام

جن کی شفقتوں اور حوصلہ افزائیوں نے مجھے نہ صرف ان کا پیشہ اختیار کرنے بلکہ  
اپنے تجربات و مشاہدات کو افسانے کی صورت میں بیان کرنے کا حوصلہ عطا کیا۔

نام : حسنا نیس  
والد کا نام : پروفیسر محمد مسلم عظیم آبادی  
پیدائش : ہزاری باغ، جھاڑکھنڈ۔ (بھارت)  
12 جولائی 1939ء

تعلیم : ادیب کامل (علی گڑھ یونیورسٹی)  
ایم اے، اردو (ڈھاکا یونیورسٹی)

پیشہ : درس و تدریس (محکمہ تعلیم حکومت سندھ)  
گورنمنٹ اسلامیہ کالج برائے خواتین، کراچی  
گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس، کراچی  
پرنسپل گورنمنٹ گرلز کالج اور نگی ٹاؤن، کراچی

ریٹائرمنٹ : 11 جولائی 1999ء بہ حیثیت ایسوی ایٹ پروفیسر  
آخری ملازمت بعد از ریٹائرمنٹ: پرنسپل Axis گرلز کالج، بہادر آباد، کراچی  
ایوارڈز : بیست پنج آف دی ایئر - 1980ء

اعلیٰ تدریسی، ادبی اور انتظامی خدمات کے صلے میں سندھ پروفیسر زائیڈ لکھر رز  
ایسوی ایشن کی جانب سے 1997ء میں اور کالج پرنسپل ایسوی ایشن کی جانب  
سے 1999ء میں شیلڈز عطا کی گئیں۔

انتقال : 7 جولائی 2003ء (کراچی)

## فہرست

### (الف) ابتدائیہ

۷	سید محمد ابوالخیر کشفی	۱۔ حستانہ اور ان کے افسانے
۱۱	حنیف فوق	۲۔ حاصل ایں سوز و ساز
۱۹	ادیب سہیل	۳۔ حستانہ انیس کو افسانہ نگاری و رثے میں ملی
۳۰	محمود واجد	۴۔ حستانہ انیس کی فکشن میں فن شناسی

### (ب) افسانے

۳۷	.....	۱۔ طوفان میں ٹھہرا ہوا الحہ
۴۶	.....	۲۔ نائٹ میر
۵۵	.....	۳۔ سنگ سار
۶۳	.....	۴۔ بے بال و پر
۷۳	.....	۵۔ ڈوبتی ہوئی پہچان
۹۲	.....	۶۔ گلدان
۱۰۵	.....	۷۔ رات سے پہلے
۱۱۵	.....	۸۔ منزل ہے کہاں تیری
۱۲۲	.....	۹۔ واپسی
۱۳۶	.....	۱۰۔ آئینے کا آدمی
۱۴۱	.....	۱۱۔ جب آنکھ کھلی گل کی



## حَسَانَةُ اُرْأَنَ کے افسانے

ڈاکٹر سید ابوالحسن خیرستقی

گذشتہ سال ایک طویل و قرنے کے بعد حَسَانَة سے ملاقات ہوئی۔ وہ عبد اللہ کا لجیاری جا پہنچیں جہاں کسی تقریب کے سلسلے میں شریک تھا۔ انہیں میرا نیا ٹھکانا معلوم نہیں تھا، اس لیے ملاقات کی یہ صورت نکالی۔ تقریب کے بعد ہم دونوں باتیں کرنے لگے اور میں نے اُن سے کہا کہ وہ میرے ساتھ گھر چلیں۔ بلقیں بہت دنوں سے انہیں یاد کر رہی ہیں۔

ہم دونوں چل پڑے۔ راتے میں انہوں نے بتایا ”مجھے کینسر ہو گیا ہے، مگر زندگی پر نظر ڈالتی ہوں تو کوئی حرمت نہیں ہے۔ بچوں کو اپنی منزل مل گئی ہے، ہاں ایک بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ تو کیا ہوا۔ انشاء اللہ زندگی کی موج روائی سے منزل پر پہنچا دے گی۔“ یہ سب کچھ انہوں نے اس طرح کہا کہ جیسے وہ نزلے، زکام کی بات کر رہی ہوں۔ زندگی سے تعلق اور بے تعلقی کا ایسا امتزاجی بیان اور اظہار میرے لیے نئی اور انوکھی بات تھی۔ اور اس دن سے آج تک میں سوچتا ہوں کہ اُس ہری بھری خاتون کا ایمان کیا شاداب، زندگی کی تفہیم کیسی گھری، دکھ جھیلنے کا انداز کیا عظیم تھا۔ وہ عورت تو ایسی تھی کہ اپنی بیماری کو بھی ایک عظیم انسان اور فن کار کی طرح تماشا جانتی تھی۔ وہ اپنا، اپنی آہستہ آہستہ قریب تر ہونے والی موت کا تماشا جیسے دیدہ غیر سے کر رہی تھی۔

حَسَانَه گھر پہنچیں تو بیوی سے باتیں شروع ہو گئیں۔ یہ دو ماوں کی ملاقات تھی اسی لیے مرکزی موضوع کا درجہ بچوں کو حاصل تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ حَسَانَه کو ہماری چاروں بچیوں کے نام یاد تھے۔ کہنے لگیں ”وہ سب سے جھوٹی بچی کہاں ہے جو مجھے دیکھ کر صوفے کے پیچھے چھپ جاتی تھی اور نظر نہیں آتی تھی۔“ پھر کیمپس کا ذکر چھڑ گیا۔ حَسَانَه کہنے لگیں ”مجھے دکھ ہے کہ کراچی یونیورسٹی کا ٹاؤن شپ اپنے آپ کو کھو رہا ہے۔ شہر اس تک پہنچ گیا ہے۔ میں نے پہلے پہل گرمیوں میں کوئی آواز وہیں سنی تھی۔“ اور مجھے وہ دن یاد آگیا جب حَسَانَه پہلے پہل ہمارے گھر برادر مُحَمَّد واجد ہاشمی کے ساتھ آئی تھیں۔ وہ پی اتیج ڈی کرنا چاہتی تھیں اور اردو افسانے کے کسی مسئلے پر۔ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ مختلف موضوعات سامنے آئے۔ آخر ہم نے ایک موضوع پر اتفاق کیا۔ ”اردو افسانے میں دیہات اور شہری کشمکش“۔ حَسَانَه خاصی پابندی سے آنے لگیں۔ میں نے انہیں ڈاکٹر صبیحہ حفیظ کے سپرد کیا کہ وہ اُن سے عمرانیات پڑھیں اور اس موضوع کے عمرانیاتی پہلوؤں کا مطالعہ کریں۔ حَسَانَه پڑھتی رہیں، سوچتی رہیں لیکن وہ کاملیت پسند تھیں اور پھر اُن کی تدریسی اور گھریلو مصروفیات۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کام پورا نہ ہو سکا اور وہ زندگی کی کشمکش سے آزاد ہو گئیں۔

میں نے جو باتیں حَسَانَه کی ذات اور شخصیت کے بارے میں عرض کی ہیں، اُن کا گہر اعلق اُن کے فن سے ہے۔ انہوں نے زیادہ تر انسانوں کی طرح زندگی برسنہیں کی بلکہ اپنی زندگی کو اپنے حوصلوں اور شعور کے مطابق ایک صورت اور ترتیب عطا کی۔ فن زندگی کی روپورٹنگ یا عکاسی (فوٹوگرافی) نہیں ہے بلکہ فن کا رزندگی کو اپنی اقدار کے مطابق ایک آہنگ عطا کرتا ہے۔ احسن الذاقيں نے اپنے بندوں میں سے جنہیں صلاحیت تخلیق دی ہے یہ اُن کی پہچان ہے۔ پھر اعلق کے ساتھ لائقی فن کے لیے لازم ہے، اسی لیے فن میں موضوعیت بھی ہوتی ہے اور معروضیت بھی۔ حَسَانَه کا حافظہ جزئیات گیر تھا اور وہ جزئیات کو پیش کرتے ہوئے عملِ انتخاب سے کام لیتیں۔ نہ ہی دو خصوصیات کے ذریعے انہوں نے ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان رشتہ قائم کیا اور یہی وحدت ہمیں اُن کے افسانوں میں نظر آتی ہے۔ اس

خصوصیت کے بغیر ویل مدت پر محیط کھانیاں، واقعات کی کھونی (مجموعہ بے ترتیب) بن جاتی ہیں، فن پارہ نہیں بن پاتیں۔ اچھے فن پارے میں واقعات کا رشتہ انسانی زندگی، کرداروں اور آن کے تعامل (Interaction) سے قائم کرنا پڑتا ہے۔ حَتَّانَه کے ہاں اس کی بہترین مثال ان کا آخری اور اس مجموعے کا پانچواں افسانہ ”ذوبتی ہوئی پہچان“ ہے۔ مینا اور لوئی کا رشتہ اس کائنات کی وحدت کا ایک اشارہ ہے۔ یہ محبت یہ ہمہ گیری کا استعارہ بھی ہے۔ محبت جو حیوانی جلت کو بھی شور کی سطح عطا کر دیتی ہے۔ یہی محبت جب مینا مسزیا اور بن جاتی ہے تو لوئی کے ویلے سے پوسی کے وجود میں منتقل ہو جاتی ہے۔ زندگی بدلتی اور بڑھتی رہی۔ Lap-Top نسل آگئی مگر مسزیا اور اپنی دنیا میں محبت میں زندگی گزارتی رہیں اور آخر وہ اپنی ہم زاد پوسی کو کھو بیٹھیں۔ مرتی ہوئی پوسی سے انہوں نے کہا ”تم خوش قسمت ہو کہ دکھوں سے نجات پا گئیں۔ میرے لیے ایسی کوئی دو نہیں۔“ بات یہ ہے کہ مرض اور تکلیف ہی انسان کی دوا ہے۔ حَتَّانَه نے اس کہانی میں نسلوں کا رشتہ، زندگی کے دکھ، انسانوں کے بدلتے ہوئے روابط کا سارا بوجھاں لفظوں پر ڈال دیا جن سے یہ کہانی بننی گئی ہے۔ یہ حَتَّانَه کی اپنی کہانی ہے جسے فن نے نیا قالب عطا کیا ہے۔ اس میں بہت گہری ”شعریت“ بھی ہے۔ شعریت اُس لفاظی اور لفظوں کی نمائش و آرائش کا نام نہیں جو نیاز فتح پوری اور آن کے قبیل کے افسانہ نگاروں کے ہاں ملتی ہے۔ شعریت اُس گھرے احساس سے عبارت ہے جو زندگی کو سمجھنے کی کوشش میں موت سے الجھتا ہے، جو پر تیس ہٹا کر مفہومِ حیات تک پہنچنے کی سعی ہے۔ اور یہ شعریت آج کے افسانے کی پہچان ہے خواہ افسانے کی تکنیک کوئی بھی اور کچھ بھی ہو۔

حَتَّانَه کے ہاں شعر اور کہانی کی سرحدیں اکثر مل جاتی ہیں۔

”ایک وہ تھی کہ گم ہو کر بھی خوشبو کی طرح اُس کے وجود میں بس رہی تھی۔“

(طوفان میں ٹھبرا ہوا الجہ)

آج کے افسانے میں ”نتیجہ“ نہیں ہوتا بلکہ زندگی بھر بالواسطہ تبصرہ ہوتا ہے۔ ”ناٹ میسر“ میں حروف کی زبانی پوری زندگی پر تبصرہ ہے۔ افسانے میں زندگی کا ہر عمل حروف

کی صورت میں اپنے آپ کو دھراتا ہے۔ وقت کا پھیلا و اور سما و حستانہ کی اپنی تخلیق ہے۔ کہانی کا اختتام ”مرحومہ نے تمام عمر دنیا کمالی، اللہ مغفرت کرے“، ٹریجڈی کا مفہوم ہمارے ذہن پر آشکار کرتا ہے۔

حستانہ الفاظ کی قدرت و قیمت جانتی ہیں۔ وہ لفاظی سے بچتی ہیں کیونکہ وہ لفظ کی طاقت سے آشنا ہیں۔ عام الفاظ ان کے ہاں افسانے کی فضا کی تغیر کرتے ہیں۔

”لیکن محسن تھا جس نے اُس کے کیچڑ میں لتحرے ہوئے وجود کو محبت سے اٹھایا، دھویا اور پیار کے نرم تو لیے میں اُسے پیٹ کر عزت و وقار کا لباس پہنایا۔“ (سنگ سار)  
”محسن جس نے گلی میں رلنے والے پھر کے ایک حقیر ملکڑے کو اٹھا کر مسجد کے مینار میں نصب کر دیا تھا۔“ (سنگ سار)

حستانہ کا وجود ہمارے معاشرے کے لیے ایک خوبصورت ہا اور ”خوبصورتی کیا چیز ہوتی ہے۔ خالص ہو تو اپنا نقصان کیے بغیر ما حول کو دلکش اور دل آؤز بنا دیتی ہے۔“

ہمیں اس سے البادی دنیا میں رہتے ہوئے یہ فکر ستاتی ہے کہ کیا کسی اور دنیا میں زندگی کی اور ابعادا (Dimension) بھی ہیں۔ شاید یہ حستانہ کا بھی مسئلہ ہو اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ اس سے ابعادی دنیا کے حدود سے باہر نکل گئی، نئی ابعاد کی تلاش میں۔

(۲۵ ویں شب قدر، رمضان المبارک ۱۴۲۳ھ۔ ۲۱ نومبر ۲۰۰۳ء)



## حاصلِ ایں سوز و ساز

### ڈاکٹر حنیف فوق

اقبال جیسے بڑے رجاسیت پسند کو "حاصلِ ایں سوز و ساز، یک دل خونیں نواہست" نظر آیا تھا۔ پھر جس کی فطرت ہی مائلِ غم ہو، وہ غم کی افسانہ تراشی کیسے نہ کرے۔ حتاہنہ انیں ایک ایسی ہی افسانہ نگار ہیں، جن کے افسانوں کی فضا، کردار، بیان، رفتار، آہنگ اور موضوع سے ایک ایسی ترتیب قائم ہوتی ہے، جو زندگی کے دکھوں کا پتہ دیتی ہے۔ ان کے بیان میں بعض جگہ مثلاً مناظرِ فطرت کے سلسلے میں زندگی کے حسن و جاذبیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مگر ان کی حتاں طبیعت ان کے افسانے کے انجام کو اس معنویت کی طرف لے جاتی ہے جس سے خونیں نواہی پکتی ہے۔ یہ نہیں کہ ان کی حساسیت نے کہیں غیر ضروری جذباتیت کی شکل اختیار کر لی ہو۔ لیکن ان کے افسانے ایسے زاویاتِ نظر پر مبنی ہیں جن میں زندگی کی ہچکاری نظر آتی ہے۔ اردو میں افسانہ نگاری کے فن نے بہت ترقی کی ہے اور اب تک لا تعداد افسانے لکھے گئے ہیں۔ لیکن ایسے افسانوں کی تعداد بہت کم ہے، جن میں ایک مجموعی زاویہ نظر کی کارفرمائی ملتی ہو۔ ان کے زاویہ نظر سے اختلاف تو کیا جاسکتا ہے لیکن کم ہی افسانہ نگار ایسے ہیں جن کے افسانوں میں معاملاتِ زندگی کے بیان میں ایک ایسی سمت ملتی ہے جو زندگی پر ان کے مجموعی زاویہ نظر کا پتہ دیتی ہے۔ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو تھوڑے بہت تغیر و تبدل کے

ساتھ پیش کرنے کا کام تو افسانہ نگار کرتے ہی آئے ہیں اور انہیں پیش کرنے والے ایسے ماہرین فن بھی ہوئے ہیں کہ ان کے پیش کردہ افسانے حقیقت کی حقیقت سے زیادہ تصویر بن گئے ہیں۔ لیکن ایک مجموعی زاویہ نظر کی بات کم افسانہ نگاروں کے بارے میں کبھی جاسکتی ہے اور حستہ انیس کے افسانوں میں یہ زاویہ نظر ایسا نمایاں ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ زاویہ نظر خود زندگی کا ایک تصوراتی خاکہ پیش کرتا ہے جس میں ان کی نمائی شخصیت کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں۔ ان جھلکیوں میں نمائی بغاوت کا روپ آج کی تحریک نسائیت کے مانندہ ہی، لیکن حستہ انیس کی نمائی شخصیت میں غم سببہ اور ایثار کرنے کی نمائی صلاحیتوں کی جلوہ گری ضرور نظر آتی ہے۔ لیکن ان سب کا منظر نامہ اجتماعی احوال سے زیادہ ان کے اپنے شخصی رابطے ہیں یا ان کا گھر یا خاندان ہے۔ ان کے حوالے ہی سے ان کے افسانوں کا اجتماعی منظر بھی نمایاں ہوتا ہے۔

حستہ انیس کو سلطنتی مشرقی پاکستان کے ماحول میں دیکھا اور ڈھا کا یونیورسٹی میں پڑھایا۔ پھر ہجرت کے بعد کراچی میں ان سے بارہا ملنے کا اتفاق ہوا۔ ان کی حستہ طبیعت، نفاستِ مزاج، وسیع مشاہدے، ایثار پیشگی اور باریک بینی کے وہ عناصر جوان کے افسانوں کے مجموعے ”ذوبتی ہوئی پہچان“ میں ملتے ہیں، ان کی شخصیت کا ایسا حصہ تھے کہ ان کے بغیر حستہ انیس کا تصور محال ہے۔ ان کے افسانے گویا ایک بار پھر حستہ انیس کو مجسم کر دیتے ہیں۔ اگر چہ وہ جلد ہی ہم سے رخصت ہو گئیں، لیکن یہ افسانے اردو ادب میں اپنے خاص زاویہ نظر سے ایسا نشان قائم کرتے ہیں کہ انہیں اس ویلے سے یاد رکھا جائے گا۔ ان افسانوں میں نہ صرف ان کے گرد و پیش کی زندگی کے تاثرات ملتے ہیں بلکہ ان کے فتنی تخیل نے ایسے نقوش بنائے ہیں جن پر ان کی شخصیت اور ان کے اندازِ نظر کی گہری چھاپ موجود ہے اور ان کی وجہ سے وہ ہمارے درمیان موجود رہیں گی۔

اس مجموعے میں کل گیارہ افسانے ہیں مگر ہر افسانے سے حستہ انیس کی زندگی اور فن کے ساتھ ساتھ ان کے اندازِ نظر کی پرتمیں کھلتی جاتی ہیں۔ ”ناٹ میسر“ ایک کا بوس کی کہانی

ہے۔ لیکن یہ کا بوس کردار کی داخلی کیفیات اور زندگی کی بدلتی ہوئی صورتوں کی وجہ سے ایک ایسا افسانہ بن جاتا ہے جس میں کردار کے حالات میں تبدیلی کے باوجود صورت حال کی غمینی باقی رہتی ہے اور کہانی معمولی واقعاتی سطح سے ابھر کر ایک غیر معمولی نقش قائم کرتی ہے۔ بُری لکھائی کے بدہیت حروف جو افسانے کے مرکزی کردار کو بچپن کے کا بوس میں گھیر لیتے ہیں، بڑے ہو کر بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ساری عمر کوشش رہنے کے بعد بھی، ان ہی بچوں کے کہے یا آن کہے حروفِ شکایات کی صورت میں اسے اپنی گرفت میں ایسا جکڑتے ہیں کہ اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں تخلیل ہونے لگتا ہے۔ زندگی کی بے سود کاوشوں کا یہ افسانہ حساس تخلیل کی جھلک ضرور دکھاتا ہے لیکن حقیقت کے تاثر سے خالی نہیں ہے۔

اس مجموعے کا دوسرا افسانہ ”سنگ سار“ ایک ایسے جرم کی حقیقی یا خیالی تعبیر کا افسانہ ہے جس کی سزا روایات پیشیں کے مطابق سنگاری ہے۔ لیکن یہ صورت حال صرف تبدیلی احوال کے جر کے باعث پیش آتی ہے۔ اسے نفیاتی تجزیے کا افسانہ کہا جا سکتا ہے اور اس کا انجام ایک ایسی المناک کیفیت ہے جو موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ احساسات کی شدت ایک معلوم دنیا کے نقوش پیش کرتی ہے لیکن اس معلوم دنیا میں روایتوں اور سماجی بندشوں کے تصورات ایک ایسے ماحول کی نشان دہی کرتے ہیں جہاں سارا بارغم نسوانی وجود کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور دو مرد دو طلاق ناموں سے نمائی کردار کو آزادی دے کر خود آزاد ہو جاتے ہیں۔ مرد عورت کے رشتے کے اس معاشری تصور سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن جب تک اس کا وجود ہے، صورتِ حال کی المناکی بھی باقی رہے گی۔

ختانہ انیس کے افسانوں کے اس مجموعے میں خیال اور حقیقت کی کشمکش ”جب آنکھ کھلی گل کی“ میں پوری المناکی سے ظاہر ہوئی ہے۔ اپنے چچا کو ذہنی ہسپتال میں داخل کر کے واپس ہونے والے کردار کی ہم سفر ایک خوب بی سنوری اور مسرت سے سرشار خاتون ہوتی ہے۔ مکالموں کی مدد سے آگے بڑھنے والے بیانیے کے آخر میں واضح ہوتا ہے کہ مسرت سے پُر خاتون خود ایسے حادثے سے گزری ہے جو اسے ذہنی ہسپتال تک لے گیا اور اب

دوسرے حادثے کی، جس سے وہ اب تک بے خبر ہے، تاب اس کے حواس نہیں لاسکتے۔ اس لیے اس سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ یہ افسانہ ان افسانوں میں سے ہے جو تعجب خیز انجام رکھتا ہے۔ اپنے بیان کی دلچسپی اور اختتامی افسانوی موڑ سے یہ اچھا تراشا ہوا افسانہ بن جاتا ہے جس کا آخری جملہ زندگی کے خون کو ظاہر کرتا ہے ”لیکن مغرب سے آنے والی سڑک کے اختتام پر کچھ نہ تھا۔“

غالب نے کہا تھا:

کوئی آگاہ نہیں باطن ہم دیکر سے  
ہے ہر اک فرد جہاں میں ورق ناخواندہ  
لیکن اس ورق ناخواندہ پر ماضی کے گزرے ہوئے لمحوں کے نقوش ضرور مرتسم  
ہو جاتے ہیں۔

حتاً نہ انیں کا افسانہ ”رات سے پہلے“، غالب کے دونوں مصروعوں کی افسانوی تفیر ہے، جس میں افراد کی زندگی کے ساتھ معاشرتی ماحول کے اثرات کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ شوہر سے برسوں کی جدائی کے بعد شمسہ زیدی، جس نے ازدواجی زندگی کی تلمذی سہی، بالآخر ڈاکٹر وقار کے اصرار پر ہاں کہہ دیتی ہے۔ وہ اپنی ہمت اور اپنی ماں کی شفقت کے زیر سایہ آگے بڑھتی رہی اور اب ایک عالمی سائنس کا فرنس میں اپنے ملک کی نمائندگی کے لیے بیرون ملک جا رہی تھی۔ مگر اس کا ملک وہ نہیں تھا، جہاں اس کا بچپن گزرہ اور جہاں اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر الگ ہو جانے والی سرز میں کا بائی تھا۔ وہ وہیں اس الگ ہونے والی سرز میں رہ گیا تھا اور وہ دوسری سرز میں میں آگئی تھی۔ لیکن پہلی سرز میں کی خوبیوں تک اس کے مشامِ جاں میں باقی تھی۔ اس کا شوہر اپنے دیے ہوئے ٹیلی گرام کے مطابق اس کے پاس آتا ہے تو یہ صرف اس کی پہلے کے مقابلے میں بدلتی ہوئی شخصیت ہی نہیں، کرشننا چورا، رجنی گوندھوکی متواہی خوبیوں میں اور کٹھل، آم، کیلے، انناس کے باغوں کی کشش بھی ہے جو اس کے وجود کو گھیر لیتی ہے اور وہ اپنا سر اس کے شانوں پر رکھ دیتی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت اور

نازک افسانہ ہے جس میں الگ ہو جانے والے دیار کی کشمکش کا احساس ہوتا ہے۔ اسے بڑی ہنرمندانہ خوش سلیتفگی سے پیش کیا گیا ہے جس میں مردانہ تعصب کی حقیقت کے باوجود تحریک نسائیت کی نعرہ زنی نہیں بلکہ ایسا فطری بہاؤ ہے جو خود افسانے کو لکش بنادیتا ہے۔ البتہ اس کا عنوان ”رات سے پہلے“، محل نظر ہے۔ کیونکہ انجمام یہ ہے کہ ”اس کا کمرہ جیسے چھت سے فرش تک روشنی سے بھر گیا تھا۔“

اس دوسری ہجرت سے پہلے، پہلی ہجرت کا افسانہ بھی حسانہ انیس نے ”گلدان“ میں قلم بند کیا ہے۔ جس میں ما حول اور موسم ایک دوسرے میں ڈرم ہوتے چلتے جاتے ہیں اور انجمام میں فرش کی سرخی کر شنا چورا کی سرخی کی یاد دلاتی ہے۔ یہ گویا حقیقت کا دوسرا رخ ہے۔ شیشے کا وہ گلدان بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے جس میں سرخ، زرد، اودے، نیلے اور سفید چھوٹوں بہت محبت سے سجائے گئے تھے۔ اسی افسانے میں شاعرانہ تاثر کی آمیزش اور حقیقتاً پرانے ریل کے ڈبوں میں گھر بنانے والے ہجرت نصیب لوگوں کے احساسات سے وسعت آئی ہے۔ حقیقت اور تاثر کا امتزاج اس افسانے کی خصوصیت ہے۔

”طوفان میں نہ ہرا ہوا لمحہ“، ایک لمحہ کی کہانی ہے لیکن اس کے پیچھے جذبوں اور رواجوں کے کتنے ہی طوفان گز رچکے ہیں۔ بس وہ لمحہ باقی رہ جاتا ہے جو خود طوفان کی زد میں ہے اور جسے مناظر کے بیان سے افسانہ نگار نے سجائے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس میں رومانی تاثر سے زیادہ خارجی مظاہر اہم بن جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ”منزل ہے کہاں تیری“، ایک مختلف نوعیت کی کہانی ہے جس میں تناور درخت ایک مجاز یہ ہے جسے اس پار کے گاؤں سے رات کی تاریکی میں آئے ہوئے کچھ لوگ منحوس قرار دیتے ہیں اور جسے اس کے سامنے میں پناہ لینے والے مقدس جانتے ہیں۔ وہ جو سمجھتے ہیں کہ تناور درخت کی جڑیں زمین کی شادابیوں کو چوک رہی ہیں اسے کائنے کے درپے ہیں اور جو اسے مقدس جانتے ہیں اسے بچانے کے لیے کٹ مر رہے ہیں۔ کیلئے، ناریل کے درختوں اور ہوا سے ملتے ہوئے درختوں کے درمیان بانس کی چٹائیوں اور قمچوں سے بنائی ہوئی دیواروں اور کھڑکیوں سے افسانہ نگار نے اس تمثیلی

کہانی کی مقامیت کو واضح کرنا چاہا ہے۔ لیکن مرد و عورت کی ایسی منزل کی تلاش کہ جہاں لوگوں کے دل سیاہ نہ ہوں، بے سود رہتی ہے اور منزل خود فریب منزل بن جاتی ہے۔

”ڈوہتی ہوئی پہچان“، جس کو اس افسانوی مجموعے کا عنوان بینایا گیا ہے، مینا یا میز یا وار کے علاوہ ان کی بلی پوسی کی کہانی بھی ہے۔ رفیق حسین نے اردو میں جانوروں کے بارے میں کئی یادگار کہانیاں لکھی ہیں لیکن رفیق حسین کے تمام حیوانی کردار اپنی سب جزئیات یہاں تک کہ ماحول و جوار کے بیان تک میں نمونہ حقیقت نہیں۔ اس کے برخلاف حستانہ انیس کی پوسی خود مینا کی ثانوی شخصیت (Alter Ego) کے طور پر ابھرتی ہے۔ حستانہ انیس کے افسانوں میں کئی جگہ شہریانے کے عمل کی جھلکیاں ملتی ہیں لیکن ”ڈوہتی ہوئی پہچان“، میں صرف فلیٹوں کا جنگل ہی نہیں ملتا، وکٹورین طرز کے واحد مکان میں رہنے والی مینا، شہری زندگی کی ان تمام آزمائشوں سے گزرتی ہے جو انسان سے اس کی انفرادی شناخت چھین لیتی ہیں۔ اس کے پچھے بہتر مستقبل کی تلاش میں ترقی یافتہ ملکوں کا رُخ کرتے ہیں اور ماں سے ان کا بس رسمی تعلق باقی رہ جاتا ہے۔ مینا کے شوہر یا ورکی موجودگی میں بھی تنہائی کا احساس، جو کسی بڑے شہر کی زندگی کی سب سے زیادہ خصوصیت ہے، بڑھتا جاتا ہے اور اس کی موت کے بعد تو وہ جیسے بدرنگ کاغذ کا چیڑا بن جاتی ہے اور زخموں کی ٹیسوں سے چور پوسی کو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق زہر کا انجکشن دیے جانے پر اس کا احساس یہی ہے کہ ”تم خوش قسمت ہو کہ دکھوں سے نجات پا گئیں، میرے لیے ایسی کوئی دوا نہیں۔ زندگی کا زہر پیتے رہنا اور جانے کب تک جیتے رہنا ہے۔“

حزن تو اس زندگی کی عطا ہے لیکن اس حزن کو گوارا بلکہ خوش گوار بنانے والے مناظر بھی زندگی کی جدوجہد میں موجود ہیں۔ لیکن شاید اس کے لیے زندگی کے تناظر کی وہ تبدیلی ضروری ہے جو حستانہ انیس کے افسانوں کے مزاج سے الگ ہے۔ البتہ زندگی کے حزن کو حستانہ انیس نے پوری شدت سے محسوس کیا اور اسے اپنے افسانوں کی بُنت میں اتار دیا ہے۔

”بے بال و پر“، ایک ایسا افسانہ ہے جس میں حستانہ انیس کے فن کی یہ خصوصیت نمایاں ہو گئی ہے۔ بڑھاپے اور یکاری کا شکار ایک تنہا فرد، جس کے بیٹے لندن اور نیو یارک

میں جا بے ہیں اور جن کے خطوط سے اسے اپنی بہوؤں کی چوڑیوں کی کھنک اور پتوں کے معصوم قبیلے سنائی دیتے ہیں، خود بے بال و پر کی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن چڑیا چڑے کی آشیاں سازی اسے پھر زندگی سے تعلق کی جانب لے آتی ہے۔ لیکن چڑیا ظالم بلی (زندگی) کا نشانہ بن جاتی ہے اور چڑا خیہ ہو جاتا ہے۔ تیمارداری کے باوجود چڑا پرواز کی طاقت کھو چکا ہے اور اس کے بچے بے نیازی سے اپنی پرواز میں مگن ہیں۔ یہ دیکھ کر بیمار بوڑھا بھی لڑکھڑا کر گر پڑتا ہے۔ بظاہر یہ چڑیا چڑے کی کہانی ہے لیکن درخت کی شاخوں میں اٹکے ہوئے خزاں رسیدہ پتے اور چڑیا اور اپنے بچوں کے مقابل سے حستانہ انیس نے افسانے کو زندگی کے رنگ دے دیے ہیں۔

حستانہ انیس کے افسانے ”واپسی“ میں خیال اور حقیقت کا فرق جیسے مٹ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسے نسوائی کردار کی کہانی ہے جس کے والدین سابق مشرقی پاکستان میں مارے گئے ہیں، لیکن جس کے خیالوں میں وہ نظرِ ملک (جواب الگ ہو گیا ہے) جاگزیں ہے۔ جس کی زمین اسے سوتے جا گتے بلا تی ہے اور شعور کی گرفت کمزور پڑتے ہی وہ پھر اسی دنیا میں پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا بچپن گزر رہا ہے۔ ہجرت (یا دوسری ہجرت) پر تو اردو میں کئی اچھی کہانیاں لکھی گئی ہیں مگر واپسی اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس میں سابق مشرقی پاکستان میں پروان چڑھنے والی نسل کی اس سرز میں سے بے اندازہ محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ افسانہ ایک مختلف نوعیت رکھتا ہے۔ جس میں محبت کی نبی سے محروم رتیلی مٹی اور اپنوں کے رحم و مرودت سے عاری سلوک کی کیفیات بھی ملتی ہیں۔ طعنہ دینے والے اور اپنی خوش بختی پر ناز اس لوگ یہ نہیں جانتے کہ اپنا گھر اپنے ہاتھوں کون اجاڑتا ہے اور کون اپنے آشیانے کو خود ہی آگ لگاتا ہے لیکن اب اس خطے میں بھی جو اس کے خیالوں میں بسا ہوا تھا، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر خیال کا یہ سفر ختم ہو جاتا ہے اور وہ تلخ حقیقوں کی دنیا میں لوٹ آتی ہے۔ افسانہ نگار کی ایک خوبی تو اس خیال کے سفر میں اور دوسری حقیقت کی دنیا میں واپس لوٹ آنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ مقابل افسانہ نگار کے مزاج کا عکس بھی ہے اور کہانی پر اس کی گرفت کا

آئینہ بھی۔ ”آئینے کا آدمی“، ایک اجنبی ماحول کو پیش کرتا ہے لیکن اس کی بنیاد بھی ایک نفیاتی نکتے پر رکھی گئی ہے۔

حَتَّانَهُ اَنِيسُ کے یہ افسانے ایک ایسی افسانہ نگار کے افسانے ہیں جسے کہانی کہنے کا غیر معمولی سلیقہ تھا۔ لیکن جسے وقت نے اپنی صلاحیتوں سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی مہلت نہیں دی۔ لیکن جو کچھ پیش کیا گیا ہے وہ کم اہم نہیں ہے۔ ان افسانوں کی اپنی دنیا اور اپنی منطق ہے۔ اس میں کسی اجتماعی آدراش سے زیادہ انفرادی صورت حال نمایاں ہے۔ ایسا نہیں کہ ان افسانوں میں ایثار، قربانی اور آرزوئے زندگی کے عناصر نہ ملتے ہوں لیکن یہ سب عناصر فرد کے حوالے ہی سے بیان کیے گئے ہیں۔ افسانہ نگار کی نظر نہ صرف ہر چمکنے والی چیز کو سونا نہیں سمجھتی بلکہ ہر چمکنے والی چیز اس کے لیے ایک سوالیہ نشان قائم کرتی ہے۔ کردار نگاری پر حَتَّانَهُ اَنِيسُ کی خاص توجہ رہی ہے۔ لیکن کردار ایک معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے ان افسانوں میں اجتماعی زندگی کے کئی حوالے ملتے ہیں لیکن ان حوالوں میں بھی نہ فرد سے ان کی توجہ ہٹی ہے اور نہ زندگی کے خون میں کمی آتی ہے۔ خواہ چند جملوں میں ہی سہی حَتَّانَهُ اَنِيسُ نے فطرت کی موثر تصوری کشی بھی کی ہے جو ان کے افسانوں کی مجموعی فضائے تعلق رکھتی ہے۔ ان افسانوں میں بیانیہ سے پورا فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ لیکن ان کا بیان سطح کا بیان نہیں ہے، اندر ورنی کیفیتوں اور ان کے اندازِ نظر کو شامل کیے ہوئے ہے۔ حَتَّانَهُ اَنِيسُ نے اجزاء افسانہ کو رد نہیں کیا بلکہ ان سے اپنے افسانوں میں کام لیا اور فنی ترتیب پیدا کی ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ حَتَّانَهُ اَنِيسُ زندگی کے خون و غم کو ایسی پُر اثر تفاصیل کے ساتھ پیش کر سکی ہیں؟ شاید اس کی ایک وجہ ان کی غیر معمولی حستائیت ہے اور دوسری وجہ ان کا اندازِ نظر ہے، جس میں فنی نہ درت بھی موجود ہے۔ اگر افسانوں کا یہ مجموعہ سامنے نہ آتا تو ہم اس کرب سے اس طرح آشنا نہ ہوتے جس کے فنی طور پر پُر اثر اور نمایاں نقوش ہمیں ان افسانوں میں ملتے ہیں۔ حَتَّانَهُ اَنِيسُ کی افسانہ نگاری کی یہ ایسی خصوصیت ہے کہ جس سے اردو افسانہ نگاری میں وہ یاد رکھی جائیں گی۔

# حَسَانَةِ انْبِيسُ كَوَافَسَانَةِ نَگَارِي وَرَتَّةِ مِیں مُلْتَهِی

ادیب سہیل

حسانہ انیس بے کثرت لکھنے والی افسانہ نگار نہ تھیں، لیکن جب لکھا اور جتنا لکھا اچھا لکھا۔ وہ کئی طرح کی مشغولیات میں منقسم تھیں ایک طرف کالج میں اردو کی درس و تدریس، دوسری طرف کالج سے آ کر بچوں کی دیکھ بھال، چولھا چکلی، ظاہر ہے ان گوناگوں مصروفیتوں نے انہیں افسانہ نگاری کے لیے یک رُخانہیں رہنے دیا۔ یہ ضرور ہے کہ اردو پڑھانے کے ناتے اردو ادب کی سرگرمیوں سے باخبر ہیں۔ ان کی ابتدائی تعلیم مشہور صوفیہ ”لبی کمال“ کے کاموں ہوئی۔ حسانہ اپنے استاد مولوی محمد اسحاق کا بے طور خاص ذکر کیا کرتی تھیں۔

حسانہ انیس اس بات پر بجا طور پر فخر کر سکتی تھیں کہ ان کا دادھیاں، اور نانیھاں تقریباً سو دو سو سال سے علم و ادب اور روشن خیالی کی تحریک کو پروان چڑھاتا رہا ہے۔ افسانہ نگاری انہیں ورثتے میں ملی تھی۔ ان کے والد پروفیسر مسلم نے 1916ء میں ”الناظر“ کے لیے پہلا افسانہ لکھا۔ وہ اپنے زمانے کے نامی گرامی افسانہ نگار تھے، قیام پاکستان سے پہلے کے ”ساقی“، دہلی (مدیر شاہد احمد، دہلوی) یعنی 1939ء سے پہلے کے مہ و سال اور بعد کے مدد و سال میں شاید ہی ”ساقی“ کا کوئی پرچہ ان کے افسانے سے خالی ہو۔ پروفیسر مسلم، شاہد و ”ساقی“ کے قارئین کے پسندیدہ افسانہ نگار مانے جاتے تھے۔ یہ تو ہوئی دادھیاں کی وراثت

جو حَتَانہ انیس کے حصے میں آئی۔ نائیحال کی طرف سے حَتَانہ کے ماموں، ایک اہم ترین افسانہ نگار ڈاکٹر محمد محسن کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کا ایک افسانہ ”انوکھی مسکراہٹ“، بھی ”ساقی“ دہلی میں 1939ء ہی کے آس پاس کے سال میں چھپا تھا۔ بعد ازاں ”ساقی“ کی جانب سے ”ریزہ مینا“ کے نام سے افسانوں کی ایک انخیلو جی شائع ہوئی تو شاہد صاحب نے اس میں بھی اسے شامل کیا تھا۔ ڈاکٹر محمد محسن کا ایک اور کارنامہ ان کی تصنیف ”سعادت حسن منشو۔ اپنی تخلیقات کی روشنی میں“، (1982ء) میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ واضح رہے کہ منشوے ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر محمد محسن نے 1947ء میں اڈنبراء یونیورسٹی سے نفیات میں پی ایچ ڈی کیا اور پئنہ یونیورسٹی میں ان کا درس و تدریس کا موضوع نفیات ہی رہا۔ پروفیسر اختر اور یونی بھی ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔

حَتَانہ انیس کے ہاں روشن خیالی اور انگریز استعمار مخالف تحریک انہیں اپنے والد پروفیسر مسلم عظیم آبادی کے پردادا (صادق پور، پئنہ کے متطن) مولوی عنایت علی اور ان کے سے بھائی مولوی ولایت علی کے توسط سے ورثے میں آئی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہابی تحریک جس کی ایک پہچان انگریز دشمن تحریک کی حیثیت سے بھی تھی، سرحد میں مولوی سید احمد اور شاہ اسماعیل کی قیادت میں، ہزاروں مقامی مجاہدوں کے تعاون سے کامران ہوئی۔ مولوی عنایت علی و مولوی ولایت علی اپنے قائد کے دستِ راست و نائب سمجھے جاتے تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب 1831ء میں بالاکوٹ کے مقام پر مولوی سید احمد اور شاہ اسماعیل شہید ہوئے تو علی برادران (مولوی عنایت علی اور مولوی ولایت علی) نے نیابت کی ذمے داری قبول کی اور انگریزوں کے خلاف جہاد جاری رکھا۔ اور کچھ عرصے کے لیے اس پوزیشن میں بھی آگئے کہ انگریزوں سے واپس لیے گئے علاقوں میں امارت شریعہ قائم کی۔ لیکن یہ نیابت انگریزوں کے Divide & Rule کی مؤثر حکمت عملی کی وجہ سے ناکام ہو گئی، انگریزوں نے مقامی سرداروں کو جو امارت شریعہ کے طرف دار تھے، تو انے میں کامیاب ہو گئے۔ مولوی سید احمد کی تحریک جہادوٹ پھوٹ کاشکار ہو گئی۔ مجاہدین کچھ مارے گئے کچھ اسی علاقے میں روپوش ہو گئے، کچھ چھپتے چھپا تے وطن

واپس لوٹ گئے۔ اس علاقے میں قیام کرنے والوں میں مولوی عنایت علی تھے جنہوں نے وطن واپس لوٹنے پر اُسی علاقے میں مرجانے کو بہتر سمجھا اور اُسی علاقے میں روپوشی کے عالم میں 1858ء میں انتقال کیا۔ مولوی ولایت علی صادق پور پٹنہ لوٹ آئے۔ ان کے ساتھ ان کے خاندان کے دوسرے لوگ بھے تھے، جوانگریزوں کی وجہ سے روپوش ہوئے۔

بالاکوٹ اور نواحی علاقے کے اوگ اپنے ان عظیم محسنوں اور ان کے دارالسلام کے قیام کی تحریکوں کو اب تک نہیں بھولے ہیں۔ اس کا اندازہ اس ایک مثال سے ہوتا ہے کہ چند سال ادھر پر ویسر مسلم کی صاحزادی حستانہ انیس نے کراچی سے سیاحت کے لیے ماں سہرہ کا سفر کیا۔ انھیں ایک زمانے سے اس بات کا اشتیاق تھا کہ بالاکوٹ اور اس کے نواحی علاقوں کو بنفس نفیس دیکھیں جہاں ان کے عظیم پُرکھوں نے نہ صرف انگریزوں سے جہاد کیا بلکہ ایک امارت شریعہ قائم کرنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ بقول حستانہ انیس دوران سفر بالاکوٹ کے آس پاس کا کوئی ایک مقام تھا جہاں راستے کے ایک چائے خانے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ چائے پینے کے لیے رکیں۔ چائے خانے میں موجود بزرگ صورت لوگوں سے حستانہ کی بات چیت ہونے لگی۔ اس بات چیت میں مجاہدین بالاکوٹ کا ذکر آ گیا۔ اور دوران گفتگو انھیں جب یہ معلوم ہوا کہ حستانہ انیس صادق پور پٹنہ کے سید صاحب کے پڑپوتے کی صاحزادی ہیں یعنی مولوی عنایت علی سے خونی رشتہ ہے تو معا احترام میں وہ لوگ نیچے بیٹھ گئے اور سر آنکھوں پہ بٹھانے کے لیے بچھے جانے لگے۔

اس ماضی بعد و قریب کے پس منظر میں حستانہ انیس نے افسانہ نگاری شروع کی۔

ایک افسانے اور دوسرے افسانے کے منصہ شہود پر آنے میں طویل وقفہ ہوتا تھا اور حستانہ انیس کا یہ حال کہ نیکی کر دریا میں ڈال کے مصدقہ کسی رسالہ میں بھیج دیا، اگر نیکی بار آور ہوئی تو فہما، جب افسانہ لکھنے کی رفتار یہ ہو تو ایک کتاب بھرا افسانہ جمع ہونے میں سالوں سال لگ جائیں گے۔ حستانہ انیس کے ساتھ بھی کم و بیش یہی ہوا۔ جب انھوں نے افسانوں کا مجموعہ شائع کرنے کا سوچا تو شاید دیر ہو گئی تھی اور ان کے شوہر نامدار انیس الحق صاحب اور دوسرے

لواحقین نے افسانوں کا مجموعہ ان کی زندگی ہی میں شائع کرنے کی تیاری شروع کر دی لیکن زندگی نے وفانہ کی اور اب جبکہ افسانوی مجموعہ شائع ہو گیا ہے تو اُس کے خیر مقدم کو افسانہ نگار خود موجود نہیں، ان کے پس ماندگان کو یہ قلق تو بہر حال رہ گیا۔ اس قلق میں ان کے پس ماندگان کے ساتھ میں بھی ہوں کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد جب میرا خاندان اور انیس صاحب کا خاندان کراچی آیا تو ہم لوگ دو تین مکانوں کے بعد میں گزر بسر کے لیے کرانے کے مکان لیے۔ اس طرح حستانہ انیس اور ہم پاس پاس رہنے لگے، ادبی ذوق ہم دونوں میں قدر مشترک تھے، ان کے شوہر انیس الحق صاحب بہت اچھا ادبی و نقادانہ ذوق رکھتے ہیں، یوں حستانہ انیس اور میری بیوی کے لیے دونوں گھر ”گھر آنگن“ کے مصدق ہو گئے، دونوں گھروں کے بچے بھی صبح شام ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے رہے۔ دیکھتے دیکھتے کئی برس گزر گئے۔ پھر یہ ہوا کہ میں پاپوش کے ایک مکان میں منتقل ہو گیا، حستانہ بھی کہیں اور چلی گئیں، اور ہر روز کارابطہ گا ہے گا ہے میں بدل گیا۔ ہم ایک دوسرے سے بے خبر کبھی نہ رہے۔ وہ بچوں کے اچھے مستقبل پر اکثر باتیں کیا کرتی تھیں سو ان کی یہ خواہش ہر طرح پوری ہوئی۔ بڑا لڑکا ڈاکٹر اور دوسرے بیٹے انجینئر ہوئے، ایک بیٹی بھی اپنے گھر کی ہوئی۔ اس کے لیے انیس صاحب تمام کریڈٹ اپنی بیگم حستانہ انیس کو دیا کرتے تھے۔ انیس صاحب کی بردباری حلم، علم مثالی وہ حستانہ کے معاملے میں انھیں خوب سے خوب تردیکھنے کے ہمہ دم متنی۔!

انیس صاحب نے جب فون پر مجھے کہا کہ میں حستانہ کے شائع ہونے والے افسانوی مجموعے پر کچھ لکھوں تو جیسے انھوں نے میرے منہ کی بات چھین لی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی، حامی بھرنے میں مجھے ایک گونہ خوشی محسوس ہوئی۔ ”آئندہ“ کے مدیر محمود واجد جو خیر سے حستانہ کے سہی بھی ہیں، (واجد صاحب کے صاحزادے کے ساتھ ان کی صاحزادی بیاہی گئی ہیں) انھوں نے دس افسانوں کی فٹوٹ اسٹیٹ مجھے حوالے کر دیں۔ یہ افسانے اردو کے جن موقر رسالوں میں شائع ہوئے ہیں ان میں ”فون“، ”سیپ“، ”صریری“، ”سیارہ“، ”داڑہ“، ”آئندہ“، ”روشنائی“ اور دوسرے شامل ہیں۔

میرے سامنے حتنہ انیس کا افسانہ ”بے بال و پر“ ہے جو ”فتون“ لا ہور سے شائع ہوا ہے۔ اس افسانے کا پیرایہ تمثیلی ہے۔ یہ اُس فرد کی کہانی ہے جس کی اولاد میں ایک ایک کر کے پر دلیں چلی گئی ہیں اور تن تہا مفارقت کا عذاب اپنے کمرے میں پڑے پڑے سہتا ہے۔ افسانہ نگار اس عذاب کے اظہار سے افسانے کی ابتداء کرتا ہے:

”اور جب وہ اپنے کمرے میں تہا پڑے پڑے اکتا جاتا ہے تو اپنے کمپاؤندھ میں لگے اُس گھنے اور سر بز درخت کے سائے میں جا بیٹھتا جو ان دنوں اُس کی تمام لچپیوں کا مرکز تھا۔ پھر وہ اس کے اوپر قدم، دور دور تک پھیلی ہوئی سڈول شاخوں اور ان پر لگے ہوئے سبز چمک دار پتوں کو بہار کی سبک خرام ہوا وہ میں رقص کرتے دیکھتا، چمکیلے پتوں میں ملبوس شاخصیں جیسے اترا اترا کر سر گوشیوں میں جوانی اور اُس کی بیتاب امنگوں کی باتیں کرتیں، نیلے آسمان پر تیرتے ہوئے دودھیا بادلوں کی سبک خرامیوں پر جھومتیں اور ہوا کے زور سے یوں تن جاتیں جیسے بادلوں کو چھو لیں گی۔ جوانی سے سرشار اس تناور درخت کی ایک ایک ادا میں وہ پھر وہ گم رہنا.....“

میں نے اس افسانے کی شاعرانہ زبان کی کیفیات سے لطف اندوڑ ہونے کے لیے دوبارہ پڑھا، اس کے تمام ابواب مجھے نشی نظم گئے، ذرا رد و بدل کے ساتھ اس بات کو دوبارہ تحریر کر دیا جائے تو اچھی خاصی نشی نظم گئے۔ حتنہ انیس کی زبان اتنی مربوط اور گسی ہوئی ہے کہ جیسے سُر میں کیا ہو کوئی تار کا ساز ہو! چڑیوں کی تمثیل میں کمرے میں تہا پڑے رہنے والے شخص کی رو داد غم افسانے کے ہر باب میں ایک نیا منظر دکھلاتی ہوئی انجام کو پہنچتی ہے: انجام سے پہلے یہ جملہ دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے:

”دوسرے بچے نے بھی اڑان لی اور اڑ کر اُسی طرف چلا گیا جدھر پہلا گیا تھا“  
اب آخری منظر نامہ یہ بتتا ہے کہ وہ شخص جو جوڑوں میں شدید درد اور چبھن محسوس کرتا ہے، کمپاؤندھ سے کمرے تک جانے کی تاب بھی اس میں باقی نہیں رہی ہے، اور چڑا جس کے بچے ایک کر کے گھونسلہ خالی کر گئے وہ شدت غم سے چوں چوں کیے جاتا ہے۔ ادھر

گرم ہوا کے تھیزوں سے نیبل پر رکھے ہوئے اس شخص کے بیٹوں کے تازہ آئے ہوئے خطوط بکھر کر دور پڑے ہیں۔ وہ انہیں پکڑنے کے لیے پوری قوت سے جھپٹا لیکن لڑکھرا کر گر پڑا۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے اپنی ناکامی کا کہ حستانہ دریافت بھی ہوئیں تو کس وقت؟ میں انھیں افسانہ نگار کی حیثیت سے جانتا تو برسوں سے تھا۔ لیکن پچھانے کی منزل سے اب گزر ہوں جب ان کے کئی افسانے ایک ساتھ پڑھنا نصیب ہوا۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ فنکار سے اتنی قرابت کے باوجود اُس کے فن سے آخر کیوں اتنا دور رہا۔

حستانہ انیس کا دوسرا افسانہ ”سُنگ سار“۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب کی کھلی تصویر و تفسیر ہے۔ کہانی کی متكلم ایک ایسا سکھ ہے جس کے دوڑخ عامرا اور محسن ہیں۔ عامر سے اس کا تعلق رفاقت کا ہے جو عامر کے لاپتا ہو جانے کی وجہ سے منقطع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب افسانے میں زیر بحث خاتون کی زندگی میں محسن داخل ہو جاتا ہے، اس تعلق کے برسوں گزر جانے کے باوجود وہ، عامرا اور اس کے ساتھ گزارے ہوئے شب و روز بھلانے نہیں بھولتی۔ اور فراق لمحوں کو کسی نہ کسی عنوان یادوں میں بسانے رکھنا اور اس کی بازیافت کرتے رہنا، ہی اب اس کا من پسند شغل ٹھہرا ہے۔

عامر کی یادوں کا سلسلہ اپنی جگہ قائم ہے اور محسن دس برسوں سے تا حال جیون ساتھی ہے۔ محسن نے بھی خاتون کی دل داری میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔ دس برس کے بعد ایک روز عامر دروازے پر دستک دیتا ہے متكلم خاتون دروازہ کھولتی ہے تو حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی یہ دیکھ کر کہ اُس کے سامنے عامر کھڑا ہے۔ وہ اُسے دیکھ کر نہال ہو جاتی ہے۔ رفاقتوں کے خواب لمحے دہراتے جاتے ہیں۔ بہر حال عامر اُسے دوبارہ اپنا بنانے کا عندیہ دے کر چلا جاتا ہے۔ متكلم خاتون ایک کشکش میں ہے۔ وہ اب محسن کے ساتھ برسوں سے ایک رفاقت کی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ اب کسی نئے تجربے سے گزرنامہ نہیں چاہتی وہ خود میں اس کام کے لیے دم ختم نہیں پاتی۔ بہر حال اب پھر وہ دوکشش ثقل کے درمیان آن پھنسی ہے۔ اُس کا ذہن ایک عجب ناقابل برداشت یہجان میں مبتلا ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے۔ اسی عالم میں اس کے نام دو

لغا فے ایک ساتھ آتے ہیں۔ عامر نے اس کی پُرسکون اور پُر آسائش زندگی کو مفلوک الحالی میں تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس نے باضابطہ طلاق سے نوازا تھا۔ متکلم خاتون نے شدید اضطراب کے عالم میں محسن کا خط کھولا "اس نے لکھا تھا کہ بھٹکے ہوئے پرندے کو اگر اس کا گھونسلہ مل جائے تو پرندے کی اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ واپس اپنے گھونسلے میں چلا جائے۔ محسن نے لکھا تھا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو،" ستم بالائے ستم یہ کہ خاتون نے ر عمل کی تالاب نہ لا کر میز کی دراز سے خواب آور گولیوں کی شیشی نکالی اور اپنی ہتھیلی پر انڈیل کر گئے بغیر نگل گئی پھر اس نے پانی کا بھرا ہوا گلاس انٹھایا اور ایک سانس میں خالی کر دیا۔

کہانی کے اختتام پر معاقاری کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کہیں خاتون نے آن گنت خواب آور گولیاں کھا کر دو طرفہ پریشانیوں سے دامنی نجات تو حاصل نہ کر لی! حسانہ انیس کا تیرسا افسانہ "منزل ہے کہاں تیری" ہے جو سہ ماہی "سیپ" کراچی میں چھپا ہے۔ یہ پوری کہانی مکالمے سے شروع ہوئی اور مکالمے پر ختم ہوئی ہے۔ کہانی کا رونمہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ مکالمے روایا اور بر جستہ ہوں۔

کہانی کا منظر یہ ہے کہ ایک بر گدیا پیپل کا درخت ہے وہاں لوگوں کا ہجوم ہے، ہجوم درخت کی شاخوں کو ایک ایک کر کے کاٹتا جاتا ہے۔ شاخوں کے ساتھ اس کے ماننے والے بھی کاٹے جا رہے ہیں۔ مکالمہ کرنے والوں کو یہ بات سمجھھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ بر گز یہ درخت جو کپل وستو کے شہزادہ کے حوالے سے کبھی آ درمان کا مستحق ٹھہرا تھا، جس کے نیچے شہزادے نے نروان حاصل کیا تھا وہ آج اس درجہ معنوب کیوں ہوا ہے؟ امن وسلامتی اور خیر و برکت کے اس پیڑ کو جڑ سے کاٹنے کا نعرہ لگ رہا ہے۔ برہمنیت کپل وستو کے شہزادہ کے نروان سے حاصل کیے مت کو "ہندو استھان" سے دیس نکالا کر دینا چاہتی ہے، برہمنوں نے اس کے لیے خون خرابہ کا راستہ اختیار کیا۔ بدھوں کے ویہارے اور استوپے تباہ کیے گئے۔ ان سب کے باوجود آج جنوب مشرقی ایشیا پر نظر ڈالیں تو چین، جاپان تک بدھ مت ہی پھلتا بڑھتا چلا گیا ہے، اور برہمنیت باہر تو کیا پھیلتی اپنے گھر میں بھی سکڑتی ہوئی ایک نقطے پر جم کر رہ

گئی ہے۔ اور کپل وستو کے شہزادے کی امن و سلامتی کا پیغام گیا اور نالندا سے نکل کر نکلا سے ہوتا ہوا پورے جنوبلی ایشیا پر چھایا ہوا ہے۔ دوسری تشریع تشكیل پاکستان اور قائد اعظم کے حوالے سے ہو سکتی ہے۔

حستانہ انیس کی چوتحی کہانی ”واپسی“ ہے۔ واپسی ایک عورت کی یادوں کی بازیافت کی کہانی ہے۔ اس کی شروعات یوں ہوتی ہے کہ جب وہ اُس سرز میں میں دوبارہ جاتی ہے جسے برسوں پہلے چھوڑنے پر مجبور ہوئی تو اسے محسوس ہوا کہ وہاں کچھ بھی نہیں بدلا سب کچھ دیا ہی ہے۔ اُسے محلہ دار روشن علی بے طرح یاد آیا جو اپنی جان پر کھیل کر کتنی ہی میلی آنکھوں سے اُسے بچانے کے لیے رحمت کا فرشتہ بن گیا تھا۔ اس عورت کی ڈھاکہ کے الیہ واقعات کا سرا یاد کی انگلیوں میں کیا آیا کہ پورا گولا کھلتا چلا گیا۔ اس سے کہانی کا رعورت کو اُس وقت نجات ملتی ہے جب کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے۔ دستک دینے والا اُس کا شوہر ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حستانہ کے بیشتر افسانوں کا اختتام ایسے ہی ڈرامیک ہوتا ہے۔ افسانوں کا اختتام متعلق معلوم نہیں ہوتا، کہانی کی ماجرہ کاری سے جڑا رہتا ہے۔ کہانی کوئی بھی ہو، حستانہ انیس کے ہاں ”یادوں کی بازیافت“، ایک تکنیک کی طرح استعمال ہوتی ہے۔

حستانہ کے اکثر معاصر افسانہ نگاروں کے بیان میں اکھڑے پن کا احساس ہوتا ہے لیکن حستانہ کے بیان اور بنت کاری میں ایک تسلسل، جما و اور سجاوٹ ہوتی ہے، اس احتیاط کے ساتھ کہ وہ آورد کا حصہ نہیں بلکہ آمد کا حصہ معلوم ہو۔ حستانہ کا قلم محض تماشای کا قلم نہیں، وہ افسانوی منظر کا تماشا، مشاہدے کی سطح پر کرتی ہیں، تجربہ بھی مدد ہوتا ہے، افسانوی منظر نامے میں اُن کا مطالعہ پوری جزیات کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ کردار کے معمولی سے معمولی حرکات و سکنات بھی نظر انداز نہیں ہونے پاتے اور افسانے میں ان خصوصیات کا درآنا، گھرے اور غایر مطالعے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میرے اس اخذ نتیجہ کی بنیاد حستانہ کے افسانے ”سنگ سار“ اور ”بے بال و پر“ بھی ہیں۔ یہ افسانے انگریزی مقوالے Morning Shows the Day کی مظہر ضرور ہیں، لیکن حستانہ کی دوسری مصروفیات افسانہ نگاری پر اس طرح حاوی رہیں کہ اُن پر

پوری طرح دن نکلا ہی نہیں۔ اگر ان پر افسانہ نویسی کا دن پوری طرح ظاہر ہو پاتا تو ان کا مستقبل نہایت تابناک ہوتا۔

ختناہ انیس کا پانچواں افسانہ ”ڈوبتی ہوئی پہچان“، اُس عصری جسمیت اور مسائل سے جڑا ہوا ہے جو آج کے دور میں پاکستان کے تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ والدین بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، ان کے اچھے مستقبل کے لیے انھیں اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، ان کی ناموری کے خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب سے سوامیدیں باندھتے ہیں، پھر جب بچے اعلیٰ تعلیم سے آ راستہ ہو چکتے ہیں تو اعلیٰ مستقبل کے لیے پر دلیں سدھا رجاتے ہیں۔ پھر والدین جو بچوں کو ایک پل نظر سے او جھل نہ ہونے دیتے تھے، ان کی آنکھیں اپنے دل کے ٹکڑوں کے لیے جو پر دلیں میں براج رہے ہوتے ہیں، برسوں ترستی رہتی ہیں۔ برس دو برس میں ان بچوں میں کوئی واپس آتا بھی ہے تو آنے کی خوشی کے ساتھ والدین کے لیے اپنے واپس جانے کا دکھ بھی لے آتا ہے۔ ان پر ’آمدن بے ارادت اور رفتہ بے اجازت‘ کا محاورہ لا گو نہیں ہوتا۔ یہ آنا جانا ان بچوں کے ارادوں کے تابع ہے۔ اور والدین جب تک زندہ رہتے ہیں، قسطوں میں اولاد کی مفارقت کا دکھ جھیلتے رہتے ہیں۔ کم و بیش یہی پس منظر ختناہ کے غم کا بھی تھا۔

آخری کہانی میں وہ عورت بھی نظر آ رہی ہے جس کے شوہر کی مصروفیت شروع دن سے ایسی رہی کہ اسے اپنے ”نصف بہتر“ کے حسب خواہش اس پر دھیان دینے یا ملتفت ہونے کا موقع کم ملا اس کے باوجود کہ رفاقت شاخ در شاخ پھولی پھولی۔ اُس کے شوہر کا اگر کچھ قصور ہو سکتا ہے تو یہ کہ اُس کی مصروفیت، رفاقت کے ذریمان رقیب بن کر حائل ہو گئی۔ اس کہانی کو کہانی کار کا سوانح بھی کہا جاسکتا ہے۔ یہ سوانح بیشتر براہ راست بیان ہوئے ہیں، اور کہیں پوسی کی تمثیل بھی کام آئی ہے۔ اس باب میں ختناہ انیس کا چرند و پرند کا نفیاتی مطالعہ بھی گھرا اور قریبی ہے۔ یہ موضوع افسانہ، پرندوں کے حوالے سے ان کے افسانے ”بے بال و پر“، میں کمال کا Depict ہوا ہے۔

ختناہ انیس درس و مدرلیں میں داخل ہونے کے ساتھ، پی ایچ ڈی کے حصول کا

ارادہ رکھتی تھیں، انہوں نے ”افانے میں دیہات کا کردار“ موضوع کے طور پر منتخب کیا تھا۔ اس سلسلے میں وہ لا ہور، پنڈی اور سرگودھا کے ادیبوں اور افسانہ نگاروں سے تبادلہ خیال کا منصوبہ بھی مرتب کر رہی تھیں۔ بہر حال ستراں کی دہائی کے آخر میں اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے گھر سے چل پڑیں۔ اس سفر میں حستانہ کے ساتھ شاہد کامرانی، خاکسار اور محمود واجد تھے۔ لا ہور پہنچے، ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں قیام کیا۔ حستانہ انیس کی معیت میں جناب احمد ندیم قاسمی اور محترم غلام الشقلین نقوی سے ملنے۔ پنجاب کے دیہات پر ان دونوں نے بہتر سے بہتر افسانے رقم کیے ہیں۔ مسعود اشعر اور انور سجاد نے ایک ہوٹل میں چائے پر بلا یا۔ کچھ اور ادیبوں سے بھی ملنے۔ کشور ناہید سے ”ماہِ نو“ کے دفتر میں ملاقات ہوئی۔ بعد ازاں داتا دربار میں حاضری دی۔ دن بھر کے تھکے تھے اور اگلی صبح سرگودھا کے لیے روانہ ہونا تھا۔ محمود واجد صاحب اس سلسلے میں ڈاکٹر وزیر آغا سے رابطہ کر چکے تھے۔

دوسرے دن دوپہر کو ہم لوگ آغا صاحب کے ہاں پہنچ گئے۔ ڈاکٹر وزیر آغا ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے بنگلے کے خاص دروازے پر کھڑے ملے۔ آغا صاحب کے ملازم میں میزبانی کے آداب سے واقف تھے۔ ہمارا سامان انہوں نے ہاتھوں ہاتھ اٹھا کر ایک کمرے میں رکھا۔ دوسرا کمرا جو ڈرائیور روم کے کام آ رہا تھا، ڈاکٹر وزیر آغا کے ساتھ ہم سب وہیں بیٹھ گئے۔ پھر محمود واجد نے کمرے کی چاروں دیواروں کی کارنسوں پر نظر دوڑائی۔ وزیر آغا مسکرائے ”یہ اسلامائزیشن سے پہلے کی ہیں۔“ ہر طرف رقص کے مختلف پوز میں فریم کی ہوئی خوبصورت تصویریں تھیں۔ (یہ جزل ضیاء الحق کا دور تھا)۔ چائے آگئی، چائے نوشی کے دوران ادب پر عمومی گفتگو ہوتی رہی، پھر آغا صاحب نے حستانہ انیس سے پوچھا کہ آپ نے مقالہ کا synopsis ساتھ لایا ہے، حستانہ جیسے اس سوال کے لیے تیار بیٹھی تھیں، فوراً بیگ سے ”سیناپس“ کے کاغذات نکال کر آغا صاحب کو پیش کیے۔ انہوں نے تحریر پر نظر ڈالی اور موضوع کی ضروریات کی نشاندہی کرتے رہے۔ اسی دوران میں یہ بات بھی آئی کہ ڈاکٹر انور سدید بھی اسی قسم کے موضوع پر ایک کتاب رقم کر رہے ہیں۔ شام کو سرگودھا کے کچھ اور

ادبی احباب جتاب غلام جیلانی اصغر، اور سجاد نقوی ملاقات کے لیے تشریف لے آئے، آغا صاحب نے ان احباب سے ہم سب کا تعارف کرایا، پھر حستانہ انیس کی آمد کی غایت بیان کی، اور گفتگو اُسی طرف چل پڑی۔ سب نے اپنے اپنے انداز میں ”افسانہ نگاری میں دیہات“ کے موضوع پر بتیں کیس، بہت سی مفید اور قابل ذکر معلومات سامنے آئیں۔

سرگودھا میں چوبیس گھنٹے قیام کے بعد ہم لوگ راولپنڈی کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں بھی ایک دن قیام رہا۔ رشید امجد، مختاریاد، احمد داؤد اور دیگر دوستوں سے ”افسانہ نگاری میں دیہات“ کے موضوع پر تبادلہ خیال ہوا، حستانہ انیس کے لیے یہ ملاقاتیں اور سفر بالکل نیا تھا۔ حستانہ انیس کو ان احباب کے نقطہ نظر سے خوب خوب مستفید ہونے کا موقع ملا۔ کیونکہ یہ سب کے سب اردو ادب میں بہ حیثیت افسانہ نگار معروف لوگ ہیں۔

حستانہ انیس کا یہ منصوبہ کاغذی تیار یوں سے آگے نہ بڑھ سکا۔ کیا مشکلات پیش آئیں اس کا مجھے علم نہ ہو سکا۔ بہر حال، ان کا پی ایج ڈی کرنے کا منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ اس سے ایک قابل قدر کام اردو ادب کے روکارڈ پر نہ آ سکا۔

حستانہ انیس اب ہم میں نہیں ہیں، مگر لگتا نہیں کہ وہ ہم سے دور ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی وہ میرے گھر میں مہکتی، بکستی، مسکراتی وارد ہو جائیں گی۔ اُسی تخت پر بیٹھ جائیں گی جس پر میری بیگم بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ حسانہ کو دیکھ کر نہال ہو جائیں گی۔ پھر خاندان کی بچیوں اور بچوں کی شادی بیاہ کا چرچا چل نکلے گا۔ ادھر بچیاں حستانہ چھی کی خوبصورت باتیں سننے کے لیے حلقة بگوٹھ ہو جائیں گی، ادھر ان کے بچے بھی والدہ کی تلاش میں ڈولتے ہوئے آ کر پاس بیٹھ جائیں گے اور ایک اچھی خاصی محفل جم جائے گی۔

ہمیں ایسا اس لیے بھی لگتا ہے کہ حسانہ انیس کی تحریر یہی ہمارے درمیان زندہ ہیں۔

یہ تحریر یہیں اُن کے بچوں اور بچوں کے بچوں میں تادری اسی طرح زندہ رہیں گی اور افتخار کے ساتھ یاد کی جائیں گی جس طرح اُن کے جدا مجدد مولوی عنایت و مولوی ولایت علی کی تو قیران کے پرستاروں میں آج تک زندہ و پابندہ ہے۔ ☆☆☆

# حستانہ انیس کی فلکشن میں فن شناسی

محمود واجد

بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں انگریزی فلکشن کے معروف نقاد پری لوک نے اپنی معروف کتاب The Craft of Fiction کے دیباچے میں لکھا تھا:

”آرٹ پروں والا لفظ جسے پکڑنا یا باندھنا مشکل ہے کہ یہ ہمیشہ موضوع گفتگو سے پھسل جانے کو تیار رہتا ہے اور جسے اس کی اپنی بنیاد پر قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے۔“

اس بات کا مفہوم صرف اتنا تھا کہ آرٹ فارم اپنے کرافٹ سے مرتب ہوتا ہے اور مکمل تفہیم ہونے پر ہی کوئی رائے قائم کی جاسکتی ہے۔ لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں تھا کہ کرافٹ سیکھیے اور پھر فن کی طرف آئیے۔ دراصل آرٹ کے عامل کے کام کو مشکل بتانا مقصود تھا۔ اس کے لیے کسی درس گاہ میں داخلہ کی شرط بھی ضروری نہیں تھی بلکہ آرٹ میں جذبے کا ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ کتاب کی ابتدائی عجیب انداز میں ہوئی تھی:

”وہندلی اور تصوراتی ہیئت کو قابو میں کرنا ایک دم سے نقاد کے لیے بھی ممکن ہیں جو ایک کتاب میں ہوتا ہے۔ کوئی طاقت ایسی کتاب کو نجمد اور بے حرکت نہیں بناسکتی، دھیرے دھیرے اس کی شکل واضح ہوتی

ہے، جیسے جیسے دوبارہ ورق گردانی کی جاتی ہے باتیں واضح ہوتی ہیں لیکن سب کچھ نہیں، کچھ مبہم رہ جاتا ہے۔ جتنا جتنا ہم آگے بڑھتے ہیں اُس کا مواد گھل کر یادداشت کا حصہ بن جاتا ہے یہاں تک کہ آخری صفحہ اور اس کی تفصیل پڑھ کر بھی سب کچھ عیاں نہیں ہوتا۔ دنوں اور مہینوں میں دھند چھٹتی ہے اور بہت کچھ دکھنے لگتا ہے۔“

یہ باتیں میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ بتاسکوں کہ فکشن محض قصہ نہیں ہے۔ قصہ کہانی میں بھی فکشن ہے یہاں تک کہ داستانوں میں بھی مگر کچھ اور طرح کا۔ ان کی تخلیق کے تقاضے اور جواز بھی کچھ اور ہیں۔ فکشن جسے ہم افسانہ اور ناول میں دیکھتے ہیں زندگی جیسا ضرور ہے مگر یہ عین بہ عین زندگی نہیں ہے۔ گویا باضابطہ سمجھنے کی کوشش اور اخذ کرنے کی صلاحیت ہی تخلیق کی معنویت کی لطف اندوزی تک لے جاسکتی ہے۔ لکھنے کی اہلیت تو بہر حال آگے کی چیز ہے۔

مغرب کا فکشن تو اٹھارویں صدی میں قائم ہو چکا تھا ناول کی حد تک لیکن باضابطہ افسانہ انیسویں صدی کے وسط میں مستحکم ہوا۔ ہمارے یہاں مشرق میں اور خاص طور سے اردو زبان میں بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں افسانہ باضابطہ وجود میں آیا۔

ہمارے دورِ اول کے افسانہ نگاروں کی نسل نے آس پاس آنے والوں کو بڑا متاثر کیا تھا۔ ان میں ایک اہم نام پروفیسر محمد مسلم عظیم آبادی کا تھا جو ادب کے استاد ہی نہیں ادیب، شاعر اور افسانہ نگار بھی تھے۔ یہ ”الناظر“، ”لکھنؤ“، ”ندیم“، ”گیا اور“ ساقی“، ”دہلی“ میں مسلسل چھپ رہے تھے (1916ء سے 1943ء کے عرصے میں)۔ پروفیسر محمد مسلم، حضرت سید احمد شہید کے اولین خلفاء کے خانوادے سے تھے جو علمائے صادق پور کہلاتے تھے۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ (غیر مطبوعہ) میرے سامنے ہے۔ اس کا دیباچہ انہوں نے خود لکھا ہے۔

چند فقرے ملاحظہ ہوں:

”افسانوں میں جگ بیتی اور آپ بیتی نہ ہو تو ان میں اصلیت کی تاثیر

پیدا نہیں ہوتی مگر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ عوام ان کو ذاتی واردات سمجھ لیتے ہیں اور اعزاز اور حب ذاتیات کے افشا یا تفحیک و توہین کا شبہ کرنے لگتے ہیں۔“

پروفیسر مسلم کی چھوٹی بیٹی پروفیسر حنانہ انیس نے جب افسانہ نگاری شروع کی (1969ء) تو ایسا کوئی خدشہ نہ تھا کہ اردو میں رومانی تحریک، ترقی پسند تحریک اور جدید تحریک نے اپنے رنگ جماییے تھے گویہ حقیقت اپنی جگہ پڑھی کہ عصری زندگی سے اخذ کردہ مواد میں خود لکھنے والا/ والی کہیں موجود نہ ہو یہ ممکن نہیں لیکن یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ فنکار تو کہانی کی قلب ماہیت سے گزر کر ہی تخلیق کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں ہی ان کے اپنے محمد مسلم، ڈاکٹر محسن، اختر اور یونی، شکلیہ اختر ماذل رہے ہوں گے۔ پھر انہوں نے خود ادیب کامل اور ایم اے اردو ادب کی سندیں حاصل کیں اور ادب پڑھانے پر مامور ہوئیں اور بہت کامیاب استاد اور اچھی منتظم ثابت ہوئیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی خدمات کو حاصل کرنا ضروری سمجھا گیا۔ ان کے شوہر جناب انیس الحق بھی بنارس ہندو یونیورسٹی اور قائد اعظم کالج ڈھاکہ کے استادر ہے تھے۔ گویا ایس خانہ بہمہ آفتاب است کے مصدق ان کے بیٹے بیٹیوں نے بھی اعلیٰ ترین سندیں حاصل کیں اور کئی ملکوں میں گھر بنانے کے ہیں۔

افسانے میں یہ ان کی ذہانت کا کرشمہ ہے کہ کم سے کم لکھ کر زیادہ سے زیادہ کی حقدار پائی گئیں۔ وراثت کے علاوہ عصری حقائق انیس ایسے ملے کہ بار بار بننے اور بگڑنے کے مراحل سے گزرنا پڑا۔ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا ایک دم سے ان کے سامنے نہیں آگئی۔ ذاتی طور پر انیں دو ہجرتوں سے گزرنا پڑا، مغربی ملکوں کے دو طویل سفران کے وزن کے تنواع میں معاون ثابت ہوئے۔ غلامی سے آزادی کا سفر، تقسیم در تقسیم کے الیے کی عینی شاہد، انسانی رویوں کے مد و جزر کا ان کا اپنا مشاہدہ مسئلہ ہی نہیں بلکہ دنیا کو ہر حال میں برتنے کا تجربہ بھی انیس حاصل ہوا جو ان کے خاندان کی کشتی کو بحفاظت بچالے گیا لیکن اس تگ دو میں اتنی ہلکاں ہوئیں کہ اپنی جان گنوں بیٹھیں اور آج اپنی کاؤشوں کی داد خود لینے کو ہمارے درمیان موجود نہیں۔

ابھی پچھلے دنوں میں اپنی بیٹی کے پاس ابوظہبی جا رہا تھا کہ ان کا فون آیا: ”سنا ہے میری کتاب آرہی ہے یقین نہیں آ رہا کہ میری زندگی میں آئے گی۔“ میں نے کہا آپ جی کر تو ویکھیں میں آپ کی کتاب لارہا ہوں۔ مہینہ بھر رہ کرو اپس آیا تو موزی کینسر نے انہیں اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا اور اگلا مہینہ انہیں دیکھنا نصیب نہ ہوا! ایسی نفیس، ایسی باذوق، ایسی باوقار، ایسی محبت شناس شخصیتیں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہوئی گی۔ میں نے تو ان سے ان کی زندگی میں ہی یادگار کے لیے اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی مانگ لی تھی جس سے ہمہ وقت انہیں کسی زاویے سے دیکھنے کو مل جاتا ہے۔

فکشن کے فن کے سلسلے میں ان کی شاسائی اردو ادب میں گھری جڑیں رکھتی ہے۔ میرے سامنے ان کے افسانے ہیں جو ہندوپاک کے مقتدر رسائل میں شائع ہوئے ہیں۔ کچھ میں نے شائع کیے ہیں باقی دوسرے لوگوں کے یہاں آئے ہیں۔ ان کا موت کی طرف اتنی تیز پیش قدمی کا احساس مجھے قطعی نہ تھا۔ اتنی باتیں اتنی یادیں ہیں کہ سب کو سمیٹنا مشکل ہے۔ مشرقی پاکستان (بنگلہ دیش) سے یہاں آتے ہی میری شریک حیات برین ہمیر ج اور فالج کا شکار ہوئیں اور کوئی چودہ برس بعد رخصت ہو گئیں۔ کیسے سنگین مسائل تھے۔ میرے پانچ بیٹیاں تھیں اور ان کے بھی پانچ پھر دو اور ہوئے۔ دونوں کے مسائل تھے۔ کس طرح ہم مشترک قسم کے مسائل سے دوچار ہوئے اور کس طرح ہم دونوں نکل آئے یہ ان کے مشورے اور تعاون کے بغیر ممکن نہ تھا۔ اسی طرح ان کے شوہر کے خصوصی تعاون سے سب اپنی اپنی راہ پر لگے۔ ان کا اپنا پی ایچ ڈی کا تھیس درمیان میں انک گیا۔ ”اردو افسانوں میں گاؤں اور شہر کی پیش کش،“ پرانے کے گاہڈا کٹر کشفی نے ڈاکٹر صبیحہ حفیظ (معروف شاعر حفیظ ہوشیار پوری کی بیٹی) شعبہ سو شیالوجی کو ڈاکٹر مقرر کرایا۔ صبیحہ حفیظ نے بہت سی کتابیں اُس موضوع پر انگریزی میں پڑھوائیں اور کافی نوٹ تیار ہو گئے۔ Taboos, Totum اور جانے کیا آلا بلہ جو اس سماجی جانور (انسان) کو سمجھنے کے کام میں آتے تھے خواہ وہ گاؤں کا ہو یا شہر کا ہو۔ اس کا کچھ حصہ کہیں گم ہو گیا۔ بڑی بدظن ہوئیں اور سندھا تھے نکلتی ہوئی لگی۔ مگر محنت کام آگئی۔

سند تو نہ ملی لیکن معاشرتی علوم کا سرمایہ کا بچ آف اکنامکس میں طالبات کے کام آیا۔ وہاں انہوں نے اردو ادب نہیں پڑھایا۔ قدرت کس طرح کام لیتی ہے انسان سے اور کیسے کیسے! گیارہ افسانوں میں پہلا افسانہ ”طوفان میں ٹھہرا ہوا المح”، حستانہ انہیں کی فن شناسی کی راہ دکھاتا ہے۔ قصہ، کردار، پلات، زماں، مکان، تاثر۔ کیا یہ سب کچھ مل کر افسانہ بن جاتا ہے؟ ہاں کہنے کی ضرورت پر آپ حیران نہ ہوں کہ ابھی مقدار کا طے ہونا باقی ہے۔ حستانہ جانتی ہیں کس کو سکس مقدار میں کہاں رکھنا ہے کہ وحدتِ تاثر کی بنیادی شرط قائم رہے۔ ذہن کو جھٹکا لگے مگر ذہن معطل نہ ہو جائے۔ سیدھی شفاف راہ دکھائی دینے لگے۔ انسانی الیہ کا رُخ واضح ہو جائے کہ سب کچھ اختیار میں نہیں۔ جو چیز جیسی نظر آتی ہے ویسی ہی ہو بھی ضروری نہیں۔ خوشی کا مفہوم سب کے لیے یکساں نہیں۔ آگئی حاصل ہو جائے یہ بڑی بات ہے!

مجھ سے پہلے لکھی گئی تحریریوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ مستند نقادوں نے افسانوں کو عموماً پسند کیا ہے۔ بعض نے دل سے، بعض نے دماغ سے، بعض نے برتاب کے ذریعے۔ اب میں کیا کروں کہ ان کا جواز تو بہر حال ڈھونڈنا ہے۔ فن پر گرفت کی وضاحت چاہوں گا۔ کاش وقت ساتھ دے! بہر حال، وحدتِ تاثر اتنا شدید ہے کہ پورے وجود کو جھنچھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ پلات انتہائی گٹھا ہوا، مرکزی کردار انتہائی تیکھا اور مضبوط، واقعہ بظاہر معمولی مگر غلیں، خیال کا ارتقاء انتہائی فطری، نقطہ عروج پر بجلی کی چمک سے سارا منظر روشن ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا شمار اردو کے اہم افسانوں میں ہونا چاہیے۔

”ناٹ میسر“ ایک اور رُخ سے زندگی کو دکھاتا ہے۔ کشاکش اور جہد مسلسل سے بھری ہوئی زندگی ایک بھی انک خواب کے استعارے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ انتہائی خلوص سے لگایا ہوا اور محنت سے سینچا ہوا پودا بھی بے شر ہو سکتا ہے اگر اس کی نموا اور اٹھان کی آگاہی نہ ہو۔ جہدِ محض بے فیض بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہایت ہی سبق آموز نکتہ ہے۔ دیانت داروں کے لیے کیا کہ کیا نیکی ترک کر دی جائے اگر اس کا اجر نہیں ملتا۔ یہ بجائے خود انعام ہے۔ کردار سازی پر مصنفہ کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ ان سے بڑے کردار کی تخلیق کا امکان بڑھتا تھا مگر

حیف وہ نہیں ہیں۔

”سنگ سار“ محبت واشار پر منی ایک اور طرح کا افسانہ ہے جس میں اتفاقات و فنا اور بے وفائی کے حد فاصل کو مندرجہ ہے ہیں اور غلط فہمی کی قیمت جان کا نذر انہ پیش کر کے ہی ادا کیا جاسکتا ہے۔ افسانویت کا گہرا شعور اور ماحول سازی میں مصنفوہ کا کمال حد درجے کا ہے کہ وہ خود کو سنگ سار کر کے نجات چاہتی ہے۔ دراصل یہ خود رحمی کی یہ عجیب تمثیل ہے۔

”بے بال و پر“ میں فطرت کے تفصیلی بیانیے میں ایسی جزیات شامل ہیں جو نزدیک اور مسلسل مشاہدے کی آنکھ سے ہی منعکس ہونا ممکن ہے۔ لیکن یہ تو محض پس منظر ہے اصل الیہ تو فطرت سے کٹ جانے کا ہے جو شہری اور غیر ملکوں کا باشندہ ہونے پر فخر محسوس کرنے والی نئی نسل کا نمائندہ ہے اور پیچھے رہ جانے والی بوڑھی نسل کی بے بسی کا نوحہ ہے کہ تمام آسائشوں اور فطرت کی گود میں بیٹھے ہوئے بھی نئی نسل کے ننھے منے بچوں کے لمس اور آوازوں سے محروم شخص کا مقدر بنی ہیں۔ چڑیا چڑے کی کہانی سے ہمارے ابتدائی فکشن لکھنے والے یلدرم نے جو کام لیا تھا اس کا ترقی یافتہ version نے وزن کے ساتھ اس میں موجود ہے۔ اس افسانے میں جزیات نگاری اپنے کمال کو پہنچی ہے۔ یہ مصنفوہ کے ذاتی مشاہدے کی توسعہ محسوس ہوتی ہے۔

”ڈوبتی ہوئی پہچان“ میں فطرت سے کٹ جانے کا الیہ ایک بڑے کینوس پر پینٹ کیا ہوا آرٹ ہے۔ اس کا بیان یہ زیادہ انسانی زیادہ گہرا اور تادری رنجیدہ کر دینے والا ہے۔ لق و دق مکان یا کوئی، درخت، پودے، بیلیں، پالتو بلی، موسموں کی شدت، گھستی ہوئی زندگی، کھوئی ہوئی پہچان ایسا منظر تیار کرتی ہیں کہ زندگی کرنے اور زندگی سے بچھڑنے کا احساس گذہ ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ گویا ہونا اور نہ ہونا ایک جیسے عمل بن گئے ہوں۔ ماضی کی عظمت اور حال کی رخصتی کا منظر ہمیں اندر سے ہلاکر رکھ دیتا ہے۔ کھڑکی سے جیسے منظر آ جا رہا ہو۔ یہ مرکزی افسانہ بھی ہے اور شناخت کی گمشدگی کا نوحہ بھی۔ حستانہ کے بچپن کا ہزاری باغ آج بھی جھار کھنڈر میں موجود ہے مگر اس کی بازیافت کراچی میں ہو رہی ہے۔ ذہین فتنیں افسانہ نگار

کے ہاتھوں! قشین اس لیے کہ ایسا لگتا ہے جیسے ٹھہرے ہوئے تالاب میں ایک دم سے بہت سے کنکر مارے گئے ہوں اور بہت سارے دائرے اُبھرائے ہوں۔

”گلدان“، میں بھی موسم اور فطرت کیجا ہیں لیکن ایک اور اندازے سے۔ تشكیل پاکستان اور تقسیم کا الیہ اس میں رقم ہوا ہے اور معروضی حقائق کو موضوعی تنوع سے زیادہ بامعنی بنایا گیا ہے اور جینے کی امنگ کو فتح یا ب دکھایا گیا ہے۔ گویا اصل شے اپنے ہونے کے احساس کی لگن ہے مگر کس طرح افسانہ پڑھیے اور محسوس کیجیے۔

”رات سے پہلے“، ایک اور طرح کا الیہ انسانی رشتہوں کی عدم تفہیم سے برآمد ہوتا ہے۔ مختصر مگر جذباتی لہروں کا نکراڈ اور خوبصورت موز بھر پور زندگی کی تجسیم کرتا ہے۔

”منزل ہے کہاں تیری“، تقسیم در تقسیم کا الیہ رقم کرتا ہے، مگر یقین نہیں کھوتا کہ ہم ہیں اور ہوں گے کا جواز تخلیقی سطح پر بھی فراہم ہوا ہے۔ زیاد کا کوئی احساس نہیں۔ یہ تعمیری سوچ کا ایک رُخ ہے جو بیان ہوا ہے۔

”واپسی“، بھی انتقال آبادی سے پیدا ہونے والے مسائل کو بیان کرتا ہے مگر واضح امید کے ساتھ کہ انسانیت ابھی زندہ ہے۔

”آئینے کا آدمی“، مغربی معاشرت کے پس منظر میں لکھی گئی کہانی ہے جو وہاں اپنی اپنی دنیا بسانے اور بچوں کو نظر انداز کرنے سے برآمد ہونے والے الیہ کو بیان کرتی ہے، بالکل وہاں کا ماحدول اور جینے کا ڈھنگ تمام جزئیات کے ساتھ رقم ہوا ہے۔ یہ حتناہ کی تیز نگاہوں کا کمال ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ مصنفہ وہاں کی رہنے والی نہیں ہیں۔

”جب آنکھ کھلی گل کی“، میں ایسی باریک جزئیات نگاری ہے جو آج کل ناپید ہے اور فلشن تو یہ بھر پور ہے کہ سارے اجزا اپنی جگہ نگینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ حتناہ انہیں نے کھلی آنکھوں سے بھر پور زندگی کا مشاہدہ کیا اور فن کی رفتتوں سے بھی ہم کنار ہوئیں۔ کاش وہ ہمارے درمیان تادری ہوتیں!!

## طوفان میں ٹھہرا ہوا المحہ

ٹھاٹھیں مارتے سمندر کے کنارے وسیع و عریض شہر کے اس فلک بوس فلیٹ کی چھٹی  
منزل پر پہنچ کر جوں ہی وہ لفت سے باہر آیا تو اس کے سامنے جس فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا اس  
میں بکھرے بالوں کے درمیان اُسے وہ چہرہ نظر آیا جس نے اس کے تیز رفتار قدموں کو یوں  
روک دیا جیسے بخلی بند ہو جانے سے اچانک لفت رک جائے۔

وہ فلیٹ نمبر سکس۔ ایچ کی بجائے فائیوایچ کے کھلے دروازے کے سامنے خواب کی  
سی کیفیت میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جس کے سوا پوری دنیا اس کے لیے ویران ہو چکی تھی۔  
جس کے بغیر جوانی کی منزلیں اس نے بے سمت ہی طے کر ڈالی تھیں۔ تنہائی اور محرومی کا زہرن شہ  
بن کر اس کی رگوں میں یوں سرایت کر گیا تھا کہ جس کی ترنگ میں آوارہ بادلوں کی طرح وہ  
آسمان کی وسعتوں میں بھکلتا پھر رہا تھا۔ موسم بہار میں شاخ سے ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح

ز میں پر لئے رلتے وہ اپنی تازگی اور رنگت کھو بیٹھا تھا۔ محبتوں کے سارے رشتے ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ ایک وہ تھی کہ گم ہو کر بھی خوشبو کی طرح اس کے وجود میں بس رہی تھی۔ درد کی چھین کی طرح خلوت و جلوت میں اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی رہی تھی۔ کتنا سفر گزر گیا، کتنا فاصلہ طے ہوا اسے کچھ بھی خبر نہ تھی۔ وہ تو درماندگی میں اپنے زخمی تلوؤں سے کانٹے چننے کے لیے بھی کہیں نہ رکا تھا۔ راستے میں جا بجا ٹھنڈی چھاؤں نے اسے آواز دی۔ مہربان چھروں نے کئی بار منزل کی طرف رہنمائی کے لیے ہاتھ بڑھائے لیکن پیاسا ہونے کے باوجود وہ ظلمات میں اس چشمنے کے لیے بھلکتا رہا جس کے چند فطروں نے اسے جنم جنم کا پیاسا بنادیا تھا۔ کچھ یوں لگتا تھا اسے جیسے صدیاں بیت گئیں۔ وہ کئی ہوئی پینگ کی طرح کہاں کہاں نہ بھٹکا۔ گزرتے ہے نہ جانے کب اور کیسے علم کے تجربے اور عہدوں کے سکے اس کی جھولی میں ڈال دیے لیکن وہ آنکھیں بند کیے اپنی تہائیوں اور محرومیوں کی ردائے تارتار میں لپٹا دو رکھیں پڑا تھا۔ اپنے مادی وجود سے الگ کبھی کبھی جب وہ اپنی ردائے بوسیدہ کے روزنوں سے اپنے باہر کے وجود کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا۔ وہ تو کوئی اور تھا جس نے مال بھی کمایا اور نام بھی۔ لیکن اندر تو وہی تشنگی تھی اور وہی محرومی۔ ردائے باہروں والے وجود کے ہاتھ میں بھرا ہوا کشکول تھا اور اندر والے وجود خالی، تہی دست اور تہی دامن!

اور اب اپنی نظروں کے سامنے فلیٹ کے کھلے ہوئے دروازے میں وہ خواب اسے پھر نظر آ رہا تھا۔ وہ خواب، وہ سراب جسے اس نے اپنی صحر انور دی کے دوران کئی بار دیکھا تھا۔ پُر بھوم بازاروں میں چہکتی مہکتی پارٹیوں میں، شاپنگ آرکیڈز میں، اسٹیشن اور ایز پورٹ کے ازدواجمیں، سوتے جا گئے نہ جانے کتنی بار دیکھا اور ہر بار دوڑتے بھاگتے یہ منظر نظروں سے او جھل ہو گئے جس کے بعد آندھیوں اور بگلوں کے سوا اسے کچھ نہ لا۔ وہ اتنی بار اس عذاب سے گزرا تھا کہ سامنے نظر آ نے والے اس وجود کو وہ خوف اور بے یقینی سے دیکھ رہا تھا کہ کب یہ خواب حقیقت سے نکرانے اور چکنا چور ہو کر ایک بار پھر اس کے وجود میں تہائی کا مزید زہر

انڈیل دے۔

وہ بستر پر خاموش بیٹھی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی وہ لشیں پھسل کر اس کے چہرے پر چھاگئی تھیں جنہیں وہ اپنے مخصوص انداز میں اپنی چار انگلیوں سے سمیٹ کر پچھے کر دینے کی عادی تھی۔ لیکن اس وقت اس کے دونوں ہاتھ اس کی گود میں پڑے تھے اور سیاہ بالوں کے ہالے میں اس کا چہرہ خوفناک حد تک زرد تھا۔ باہر اور اندر کچھ عورتیں کھڑی آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھیں۔ وہ جیسے خواب اور حقیقت کی اس درمیانی کیفیت میں تیرتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔

اس نے چونک کر اپنی جھکی ہوئی پلکیں اور اٹھائیں اور ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ دوسرے لمحے وہ دوڑ کر اس کی طرف جھٹی اور پھر اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس خواب نما حقیقت کا ہر لمحہ ایک سننی خیز دھڑکن بن کر اس کے وجود میں اترتا جا رہا تھا۔ اپنے خون کی گردش کی دھمک اسے اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جس کی آواز نے اس کے دل کی دھڑکنوں میں بچھڑی رتوں کے ایک ایک احساس کو زندہ کر دیا تھا۔ اس کا اپنا گھر اس کی نگاہوں کے سامنے تھا جس کے مختلف گوشوں سے ابھرا بھر کر مختلف تصویریں اس کے سامنے آ رہی تھیں۔ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دوڑتے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ناپتے تھر کتے، پتنگ اڑاتے ہوئے اس کے بال پھاگن کی ہواں میں پیچھے پیچھے اڑاتے جاتے اور وہ اس کی چرخی سنبھالے، اس کی اڑتی ہوئی پتنگ پر نظریں جمائے اس کے پیچھے پیچھے ہوتی۔ زندگی کے کئی خوبصورت موسم ڈور، پتنگ، چرخی، کھلی ہوا اور چمکیلی دھوپ، تمباکتے چہرے اور بکھرے بالوں کی نرمی میں آسمان پر ہلکے ہلکے تیرنے والے بادلوں کی طرح گزر گئے۔ اور پھر جب اس نے ڈور پیٹھی تو آسمان بہت دور نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ سورج بہت تیزی سے چمکنے لگا تھا اور گرم زمین اس کے کوٹل پیروں کو اس طرح جھلسارہی تھی کہ وہ بے قرار ہو کر بار بار اپنی جگہ بدل رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے سوہان روح تھا سو اس نے اسے اپنے شانوں پر اٹھا

لینے کا عزم کر لیا۔

اور پھر ایک دم سے ٹھنڈی ہوا میں چلنے لگیں۔ بہار کی بارش کے چھینٹوں نے گرم از میں کو ٹھنڈا کر دیا۔ نیلے آسمان پر دھنکی ہوئی روئی بکھر گئی۔ اس کا کمہلا یا ہوا چہرہ کھل اٹھا اور وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پھولوں بھری وادی کی سمت چل پڑے۔ وہ تعلیم سے فارغ ہو چلا تھا۔ ان دونوں کی پتیگ ہوا کے دوش پر بہت دور آسمان کی نیلا ہٹوں میں ایک نقطہ بن گئی تھی اور وہ دونوں ڈور اور چرخی تھا اسے اس پر نظریں مرکوز کیے بستت رُت کا ایک جزو بن گئے تھے۔ ہر طرف سکون اور خاموشی تھی۔ خوشگوار دھوپ سے دونوں کے چہرے تمتمائے ہوئے تھے۔ آسودگی اور اطمینان کی اسی کیفیت میں اچانک طوفانی ہوا میں چلنا شروع ہو گیکیں۔ یہ طوفان سیدوں کی برادری کی طرف سے اٹھا تھا اور ایک کمزوری، بے شہار الٹ کی جس کا دور دور تک کوئی اپنانیبیں تھا یک لخت سیدوں کی نفرت و آبرو کا مسئلہ بن گئی تھی۔ کسی سید لڑکی کا کسی غیر سید سے کیا تعلق بن سکتا ہے۔

پھر یوں ہوا کہ پوری سید برادری کی آبرو کے محافظ ایک پیر صاحب کہیں سے نمودار ہو گئے جو ملک کے کسی دور افتادہ گاؤں کی کسی خانقاہ کے سجادہ نشین تھے اور تبلیغی دورہ کرتے ہوئے وہاں آپنچے تھے۔ سیدوں نے غیبی امداد سمجھ کر ان کی پذیرائی کی۔ یہ جانے بغیر کہ پیر صاحب کا ماضی، حال اور مستقبل سب کچھ پر وہ اخفا میں تھا۔ انہیں تو ایک بے شہار ابیوہ ماں کی نوجوان بیٹی کو شرفِ زوجیت عطا کر کے ثواب دارین حاصل کرنا تھا سو انہوں نے سید برادری کی آبرو فرشتہ رحمت بن کر بچائی اور ایک بیوہ ماں کو اپنے زیر بار احسان کر کے سیدزادی کو بیاہ کر لے گئے۔

اس طوفان نے اس کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی پتیگ کی ڈوریوں توڑدی کہ ڈور کی کاٹ کا زخم پورے وجود کو زخمی کر گیا جس کے درد کی ٹیسیں لیے نہ جانے وہ کب سے کہاں کہاں بھکلتا پھر رہا ہے۔ ہر موڑ پر اسے وہ اپنے چہرے کی جھلکیاں دکھاتی ہے اور اسے اپنی

تلاش پر مجبور کرتی ہے اور وہ اپنے اندر اور باہر کے وجود کا طویل سفر طے کر کے خود کو واپس وہیں کھڑا ہوا پاتا ہے۔

اور اس وقت ایک اجنبی دلیس میں ایک انجانے سے گھر میں وہ اس کے سامنے یوں اچانک آگئی اور یوں اس کے سینے سے لگ کر روئے جا رہی تھی اور وہ ایک خواب ناک سرشاری کے عالم میں کھڑا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی رگوں میں دوڑتے خون میں شامل ہو کر اس کے رگ و ریشے میں اترتی چلی جا رہی ہو۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا کہ وہ ایک دم سے الگ ہو گئی اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے نحیف آواز میں بولی۔

”تمہیں اس کی اطلاع کس نے دی؟“

اس نے پلت کر انگلیوں کی سمت دیکھا اور پلنگ پر ایک ڈھیر کی صورت میں جو کچھ اسے نظر آیا اس نے اس کے ابتدے ہوئے خون کو منجمد کر دیا۔ یہ اس کے پچھے کی لاش تھی۔ تب ہی اس کی زندگی کے باقی ماندہ گم شدہ اور اس تلخ حقیقت بن کر اس کے سامنے آگئے۔

پیر صاحب جو ملکوں ملکوں گھومتے اور تبلیغ کیا کرتے تھے بعض اوقات کسی میتیم اور بے سہارا لڑکی کو غیر کفوں میں جانے کے لیے اسے اپنے حلقة ازدواج میں بھی شامل کر لیا کرتے تھے۔ وہ پیر صاحب کی عنایت سے ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھی تھی اور پھر پیر صاحب تبلیغی دورے پر امریکہ چلے گئے تھے۔ یہ پچھے کب پیدا ہوا، کیسے پلا اور بغیر دوا اور غذا کے کب تک یہاں پکجھ معلوم نہیں۔ آج صح وہ چل بسا۔ پیر صاحب کی مقدس مصروفیات میں یہ سب کچھ جانے کی گنجائش نہیں تھی۔ معلوم نہیں وہ کس ملک کے کس شہر میں ہوں گے۔ رہا پچھے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے آیا تھا اور اسی کی طرف لوٹ گیا۔

اس نے فلیٹ کے اندر کی بے سرو سامانی پر ایک نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ جسم و جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے ہر چیز فروخت ہو چکی ہے۔ اور اب پیر صاحب کے آخری تھنے کو اس

کی ابدي آرامگاہ تک پہنچانے کا فریضہ اسے انجام دینا تھا جو یوں اچانک آپہنچا تھا۔ یہ فریضہ اس نے کس طرح انجام دیا یہ اسے معلوم نہیں۔ اس کے ذہن پر تو غم سے بوجھل دو محروم آنکھیں طاری تھیں جن میں محبت کا واطہ ہی نہیں ایک خاموش التجا بھی تھی۔ اور پھر جب وہ اس کا چھوٹا سا سوت کیس سنجا لے اسے اپنے ساتھ لے کر فلیٹوں کے اس گھنے جنگل سے نکلا تو بچرا ہوا سمندر پر سکون اور گہرائیا تھا۔ تیرے پھر کی دھوپ سائے کی طرح موجود پر لہرا کر دھوپ چھاؤں کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ سمندری بلگے سمندر کی سطح پر جھپٹ جھپٹ کر چھینگیں اڑا رہے تھے۔ ان کے سفید پروں کو دیکھ کر امن اور شانستی کا احساس ہو رہا تھا۔

وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ساحل کے قریب ایک پارک میں آبیٹھے۔ اس کے چہرے پر بکھری لیں جنہیں اس کی انگلیاں ہٹانا بھول چکی تھیں، سمندر کی بھیگی ہوا نہیں سنوارنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ اس کے خشک ہونٹوں کے اندر بندنہ جانے کب کی گھنی ہوئی ایک سانس جیسے خود بخود آزاد ہوئی۔ سامنے سمندر کی لہریں ساحل کو تھپک تھپک کر واپس جا رہی تھیں۔ ناریل کے جھنڈ ہوا سے جھوم رہے تھے۔ سمندر کی ہوا ان کے جسموں کو نم کر رہی تھی اور پیروں کے نیچے گلی ریت کی ٹھنڈک تمام جسم میں راحت کا احساس پیدا کر رہی تھی۔ لہروں سے جذب ہونے والا پانی ریت میں ننھے ننھے بلبلے بنارہا تھا۔ جس سے ان کے پیروں میں بلکی بلکی گدگدی سی ہو رہی تھی۔

وہ دونوں پاس پاس بیٹھے تھے۔ اس نے بے اختیار ہو کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ منزل پر پہنچنے والے کسی درماندہ مسافر کی طرح نہ ہال ہو کر آسودگی کے احساس کے تحت بے اختیار اس کے شانے سے لگ گئی۔ وقت پچھلے پاؤں چلتے ہوئے پھر وہیں پہنچ گیا جہاں سے ان دونوں نے اپنا سفر ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ گزر اہوا قیمتی لمحہ یادوں کی لہروں سے سیراب ہو کر بلبلے کی طرح ابھر رہا تھا جس نے ان کے اندر ہاچل سی برپا کردی تھی۔ دل کے اسکرین پر ان گنت یادیں نمودار ہو کر ایک دوسری میں جذب ہو رہی تھی۔ ہر جذبہ احساس کے

تاروں سے جڑ کر دل کی گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا۔ آسودگی اور سکون کی نرم روایتیں انہیں تھپک رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آدم و حوا کی گمشدہ جنت انہیں مل گئی تھی۔ عتاب و عذاب ختم ہو چکا تھا۔ اور اب کرم ہی کرم تھا۔

پرک میں اب بھیڑ ہو رہی تھی۔ ہر عمر کے جوڑے، عورتیں اور بچے، کھیل کو دا اور باتوں کی آوازیں، قہقہے، نغمے، رنگارنگ لباس، ان کے پیچھے مائیں بچوں کی پرام لگا کر باتوں میں مصروف تھیں۔ لیکن وہ دونوں اس ہنگامے سے بے نیاز ایک دوسرے کے قریب اور تنہا تھے۔ اس تصور سے سرشار کہ اس شام کے بعد اگلے دن کا سورج کیسا تابناک اور روشن ہو گا۔ شام گھری ہوتی جا رہی تھی اور سمندر کی لہریں اب ان کے پیروں کو چھو چھو کر گزر رہی تھیں کہ اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز آئی اور اسی آواز کے ساتھ ہی یک لخت وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں جوابھی ابھی زندگی کی رقم سے آشنا ہوئی تھیں اور کمہلائے ہوئے چہرے پر آس کی جھلک نمودار ہوئی تھی۔ یکا یک یوں بجھ گئیں جیسے بھلی چمکی اور پھر سارا ما جوں تاریکی میں ڈوب گیا ہو۔

”سنوتم نے اس کی قبر پر پانی تو چھڑک دیا تھا نا؟“ وہ عجیب سے سرسراتے ہوئے لبھے میں بولی۔

اس نے حیرت سے اسے دیکھا اور اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک سمٹ چل پڑی۔ اس نے اسے آواز دی تو وہ اس کی طرف پڑی۔ اس کا چہرہ نخت اور زرد ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں حزن کے ساتھ اب وحشت اور بے گانگی بھی سمٹ آئی تھی۔

وہ رک رک کر اس سے اپنے شہر جانے والی ٹرین کی روائی کا وقت پوچھ رہی تھی۔ اس سے ایک نکٹ لا کر دینے کی درخواست کر رہی تھی اور شاید رسمی شکریے کے مخصوص الفاظ ادا کر رہی تھی اور وہ چپ کھڑا تھا۔ اس کا لہجہ اور اس کے الفاظ میں اتنی اجنبيت تھی کہ اسے ان پر بازگشت کا گمان ہو رہا تھا۔ روائی کی تیاریوں کے دوران وہ اس طرح اس کے ساتھ تھی کہ تمام

وقت وہ اس کے وجود کی قربت کی سرشاری میں گم رہا۔ یوں جیسے اب وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔

ٹرین کے پروانہ ہونے میں کچھ ہی دیر رہ گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی جیب میں دونکٹ تھے اور الفاظ آتش فشاں کی طرح اس کے سینے میں محل رہے تھے لیکن اس کا رو یہ برف کی طرح سرد تھا جس نے اس کی زبان بند کر رکھی تھی۔ اشیش کے شور و غل کے اندر وہ دونوں سنائے کے حصاء میں گم سم بیٹھے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھ لیے تھے جن کی سفیدی پر ابھری ہوئی نیلی ریس صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اور وہ خاموشی سے اپنے ناخن کریڈ نے لگی۔ ٹرین کی مدھم روشنی میں اس کی پلکوں کا سایہ بہت دور تک اس کے رخسار پر پڑ رہا تھا اور بالوں میں گھرا ہوا اس کا چہرہ زیادہ زرد اور نحیف نظر آ رہا تھا۔

وہ اسے یہ بتانے کے لیے بے قرار تھا کہ وہ خوفناک جنگل جس کے اندر ہیرے میں وہ بھٹک رہے تھے ختم ہو چکا ہے۔ سامنے ایک روشن اور چمکیلی شاہراہ ہے جس کے دونوں طرف کھلی ہوا اور سرسوں کے لمبھاتے کھیت ہیں۔ درختوں پر دور دور تک رنگارنگ پھول کھلے ہیں جن کے اوپر شہد کی مکھیاں گنگنا رہی ہیں۔ نیلے آسمان پر بادل سبک خرامی سے گزر رہے ہیں۔ خوبصورت تلیاں فضا میں محو پرواز ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ سب کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور وہ جانے کیا کیا سوچے جا رہی تھی۔ آخر کار اس نے بڑی بے صبری سے اسے شانے سے ہلا کیا اور وہ خوش گوار منظر دیکھنے کی التجا کی جو وہ خود دیکھ رہا تھا۔

اس نے بڑے وقار سے اپنی نظریں انھائیں اور نظریں چار ہوتے ہی اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سے بدل گیا۔ اندر ہیرا آسمان ایک دم سے روشن ہو گیا۔ اس نے ایک سرشاری کے عالم میں اس کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں ٹکٹٹئی منزل کے پروانہ راہداری کے طور پر اس کی ہیضیلی پر رکھ دیے۔ اس نے حیرت سے ٹکٹوں کو دیکھا۔ ایک ٹکٹ اپنے پر س میں رکھا

اور دوسرا داپس اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ پھر اپنی آنکھوں اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے مضبوط لبجے میں رک کر بولی۔

”تم جانتے ہو کہ میں سیدزادی ہوں اور سیدوں کو خیرات نہیں دی جاتی۔“

ساتھ ہی بڑی آہستگی سے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے علیحدہ کر لیا۔ جذبات کی تمام جوت اپنی آنکھوں میں سمیٹ کر اُس نے نظریں جھکا لیں۔ اسی وقت ٹرین نے وسیل دی اور وسیل کی چیخ کے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔

ٹرین آہستہ آہستہ پلیٹ فارم سے ریلنگتی ہوئی رات کے اندر گیرے میں ڈوب گئی اور اس کی عقبی سرخ روشنی دودھکتے ہوئے انگاروں کی طرح اس کی آنکھوں میں اتر گئی۔ وہ اس اجنبي شہر کے پُر بجوم اشیش پر تنہا اس روشنی پر نظریں گاڑے کھڑا رہا۔ اسے کچھ پتہ نہ چلا کہ اس عالم میں گھریاں گزر گئیں کہ صدیاں یا پھر طوفان میں ٹھرا ہوا ایک لمحہ!



## ناستھ میسر

”رات اس نے پھر ہماری نیند حرام کی۔“ ناشتے کی میز پر امی نے اپنی مخصوص بیزاری سے اعلان کیا۔ اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ اب وہ سارے گھر کی ملامتی نظر وں کا ہدف ہو گی۔ اسے معلوم تھا کہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بڑے بھیا اس کے نفیاتی تجزیے کی بات کریں گے۔ با جی دعائیں پڑھے بغیر سونے پر ملامت کریں گی۔ چھوٹی بہن اپنا بستر الگ کر لینے کی دھمکی دے گی۔ چھوٹا بھائی اس کا مذاق اڑائے گا اور پھر ابا اس کے زرد و سبھے ہوئے چہرے کو دیکھ کر فکر مندا اور دھمکی ہو جائیں گے، سب کو ڈانٹ کر خاموش کریں گے۔ اس کے گال تھپتھپا کر اسے پیار کریں گے لیکن وہ کئی دن تک پریشان رہے گی۔ یہ خواب دن بھر اس پر ایک عذاب کی طرح مسلط رہے گا۔ اسکوں کی کار کر دگی سے لے کر گھر کے کاموں تک بار بار اسے اپنی غفلت پر پھٹکا رہنی پڑے گی اور رات کو پھر اسے خواب آور گولی کھلائی جائے گی۔ لیکن

خواب کا اثر ہفتوں میں کہیں جا کر زائل ہوگا۔ خوف اس کے دل سے نکلے گا اور وہ نارمل طریقے سے کام کرے گی۔ استانیوں کی ماہانہ رپورٹ تسلی بخش ہوگی اور تب وہ سب سے مل جل کر ہنسنا بولنا شروع کرے گی۔ لیکن پھر کسی دن وہی منحوس خواب نظر آئے گا اور وہی سب کچھ پھر دہرا یا جائے گا۔

اسے اچھی طرح یاد ہے کہ اس خوفاک خواب کا سلسلہ ان دونوں سے شروع ہوا تھا جب اس نے لکھائی شروع کی تھی۔ اس کی ہینڈ رائمنگ ہمیشہ سے خراب تھی، اس کی سہیلیاں اور گھروالے ہمیشہ اس کے حروف کا مذاق اڑاتے تھے۔ چھوٹا بھائی کہا کرتا تھا کہ تمہارے ج، چ، ح، خ، ڈم کئی بظیخ ہوتے ہیں۔ ص، ض، ف، ق، زنجیر کی کھلی ہوئی کڑیاں ہوتے ہیں۔ م، ق، ف اور ڈ کی آنکھیں پھوٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ ل، کی شکل ٹوٹے ہوئے چمچے اور ’ی، کی شکل پچکی ہوئی ہانڈی کی سی ہوتی ہے اور ’لا، تو بالکل چمٹا سا ہوتا ہے۔ اسی طرح انگریزی ہینڈ رائمنگ میں تمہارے R, A, N, M اور K لنگڑے اور I, J، کبڑے اور Q, O سکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے قلم سے لکھے جانے والے حروف کی تفصیل نے اسے اور بھی لاپروا بنا دیا تھا اور اردو اور انگریزی دونوں ہی کے حروف بننے کی بجائے بگڑتے جا رہے تھے۔ ہر کلاس میں اپنی ہینڈ رائمنگ پر اسے لعن طعن سننی پڑتی تھی اور وہ خاموشی سے صرف ٹیچر کا منہ تکا کرتی تھی۔ ہر ماہانہ اور دوسری رپورٹوں میں اس کی بخطی کی شکایت گھروالوں تک پہنچتی اور ڈائنٹ ڈپٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کوشش کے باوجود اس کے حروف کی شکلیں بگڑتی جا رہی تھیں ہر تنی پڑھ پڑھ خاموش رہتی جسے اس کی ڈھنائی پر محول کیا جاتا۔

اور پھر ایک دن اس کی ٹیچر کے غصے کا پارہ ایسا چڑھا کہ انہوں نے اس کی کاپیوں کے ملکڑے ملکڑے کر دیے اور دوسرے دن ٹیلی فون کر کے اس کی امی کو اسکول میں بلوایا ٹیچر نے اس ہینڈ رائمنگ کی خرابی کا سبب والدین کی لاپروا ہی کو قرار دیا اور خوب جلی کئی سنائیں۔ ماں جو پہلے ہی اس کی بخطی کی اصلاح کرتے کرتے تینگ آچکی تھیں اسکول میں ٹیچر کے ہاتھوں اپنی توہین پر غصے میں آپے سے باہر ہو گئیں۔ اسکول سے واپس آتے ہی اس کی

کا پیاس برآمد کیس اور چیڑھا کا پیوس کو دیکھ کر ایسی آگ بگولا ہوئیں کہ سر سے پیر تک اسے روئی کی طرح دھنک کر ڈال دیا۔ وہ تو بھائی جان آڑے آگئے ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ ماں کے ہاتھوں پہلی بار وہ پٹی اور اتنا پٹی کہ رورو کر ہلاکا ہو گئی۔ اس حادثے پر گھر کے تمام افراد متأثر ہوئے۔ سب نے اس کی دلجمی کی اور وہ چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹی سکتی رہی۔ ابا نے بہت پیار کیا۔ کھانا کھلایا، بازار لے گئے اور اس کا پسندیدہ کلر باکس دلایا۔ لیکن وہ غم سے نڈھاں رہی۔ ہر شے اسے اداس اور بے معنی سی لگ رہی تھی۔ اپنی نہیں سی جان پر تشددا سے بھلائے نہیں بھولتا تھا۔ بار بار اس کی آنکھیں بھرا آتیں ہیچکیوں اور سکیوں کے دوران اس کی آنکھ لگ گئی

نیند میں بھی اپنی کاپی، ان میں لکھے گئے بدھیت حروف اور امی کی ماراں کے ذہن پر طاری رہی اور پھر کسی قسم کی ہاچل سے اس کی نیند ٹوٹ گئی یا شاید اس نے خواب دیکھا کہ اس کے سرہانے رکھے شیلف سے اس کی کاپیاں اڑاڑ کر اس کے بستر پر گر رہی ہیں اور ان میں سے حروف کے پرے کے پرے نکل نکل کر اس کے چاروں طرف جمع ہو رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ یہ حروف اسی کے لکھے ہوئے تھے۔ ٹیز ہے میز ہے حروف سخت خوفناک اور غضب آلو دھور ہے تھے۔

”مارو، مارو“

”ٹانگیں توڑو“

”آنکھیں پھوڑو“

”کبڑا بناو، نکڑے کر دو“

سارے حروف چیختے چنگھاڑتے، نعرے لگاتے اس پر یلغار کے لیے بڑھ رہے تھے اس نے بھاگنا چاہا تو لنگڑے M,K,A اور N نے اسے گھیر کر اڑنگا لگایا اور وہ گر گئی۔ اس وقت ٹیز ہے T نے اس پر اپنا ہتھوڑا بر سانا شروع کر دیا اور I نے اپنا نیزہ لے کر اس کی آنکھیں پھوڑنے کی کوشش کی۔ ’ع‘ اور ’غ‘ نے اپنی چونچوں سے اس کی پنڈلی کا گوشت نوچنا

شروع کر دیا اور وہ بے تحاشا چھینے لگی اور جب امی اور ابا کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولیں تو سب کے سب حروف اسے اپنے اوپر سوار ہوتے نظر آ رہے تھے اور اس کی چھینیں تھیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا اور جب اسے ہوش آیا تو وہ اسپتال کے بیڈ پر تھی اور بیڈ نمبر ۹ کا سرخ ہندسہ چمک رہا تھا۔ امی سجدے میں تھیں اور ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ ایک دن اور ایک رات بے ہوش رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کچھ لکھتی اسے بنا سنوار کر خوش خط لکھتی اور پھر یوں ہوا کہ اس کی ٹیچر ز اس کی تحریر کو موتیوں کی جڑائی سے تشبیہ دیتیں۔

لیکن خوابوں نے پھر بھی اس کی پیچھا نہیں چھوڑا۔ دو چار مہینوں میں یہ ڈراونا خواب پھر نظر آ جاتا۔ اور وہ دن گھر سے اسکول تک ضائع ہو جاتا۔ وہی خوف، طنز، ڈانٹ ڈپٹ اور مذاق۔ اس خواب کے اثر سے کئی کئی دن وہ شدید ڈپریشن کی زد میں رہتی۔ پھر وہی ہنسنا بولنا۔ دوڑ دھوپ، مقابلہ، کامیابی، ناکامی بہت سے دن یوں ہی گزر گئے۔

اسکول سے کالج تک آتے آتے بہت سی تبدیلیاں ہوئیں۔ کالج میں کلاسوں اور سہیلیوں کے درمیان زندگی بہار کی ہوا کی طرح گزری۔ رنگوں اور خوبصورتوں کے ہجوم میں اور پھر اسی بے خودی کے عالم میں اس کا ہاتھ مسعود کے ہاتھ میں دے دیا گیا اور زندگی کے سفر کا یہ مرحلہ اس نے پھولوں سے بھری وادی سے شروع کیا۔ جہاں رنگا رنگ تسلیاں ہر طرف منڈلاتیں اور شہد کی مکھیاں گنگنا تیں۔ گھرے نیلے آسمان پر روئی کے گالے سے تیرتے، درختوں پر چڑیاں چپھتا تیں۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ پھولوں کے درمیان چلتی یا اڑتی رہی۔ نکہت و نغمہ، رنگ و نور کے ہجوم میں وہ سب کچھ بھولی رہی۔

پھر نہ جانے کب اسے اپنے تلوؤں میں چھجن محسوس ہوئی اور تباہ سے وہ کانٹے نظر آئے جواب تک پھولوں کے جھنڈ میں پوشیدہ تھے اور جن کے درمیان سے وہ راستہ بناتے ہوئے گزر رہی تھی۔ اور تباہ سے محسوس ہوا کہ راستہ بناتے بناتے اس کے ہاتھ اور پیر دونوں زخمی ہو گئے تھے۔ پھولوں بھری وادیاں اور گل پوش را ہیں دور کہیں بہت پچھے چھوٹ گئی تھیں۔

اور پھر اسے اپنے کانٹوں سے تار تار دامن اور پھروں سے کچلے ہوئے تلوؤں کے ساتھ اپنا بوجھ اٹھائے آگے ہی آگے چلنا تھا۔ کانٹوں نے تلوؤں میں کتنے زخم لگائے اور کتنا خون بہایا۔ اس کا حساب کرنے کا اسے ہوش ہی کہاں تھا۔ اس کا شریک سفر بہت دور تک اسے ٹھوکر کھا کر گرنے سے بچا تا رہا اور منزل کی نشاندہی بھی کرتا رہا۔ لیکن نہ جانے کس منزل پر ٹھوکر میں کھا کر گرتے ہوئے اس نے جوانے آگے دیکھا تو ہم سفر اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ اس کا سفر ختم ہو چکا تھا۔ اور اب یہ تلخ حقیقت اس کے سامنے تھی کہ اب اسے تنہا ہی اپنا بوجھ بھی اٹھانا ہے، راستہ بھی بنانا ہے اور اس منزل تک پہنچنا ہے جہاں اس کے بچوں کے لیے عظمتیں اور راحتیں انتظار کر رہی ہیں۔

راستے میں کتنے ہی سایہ دار درختوں اور مخلیں سبزہ زاروں نے اس کا راستہ روکا کہ آگے کھائیاں اور گھائیاں تھیں اور پُر خطر اندر ہیرے غاروں سے ہو کر گزرنا تھا۔ لیکن پھولی ہوئی سانسوں اور زخمی جسم کا بوجھ اپنے ہی کانڈھوں پر اٹھائے اپنے دشوار گزار سفر پر آگے بڑھتی رہی۔ اسے اپنے بچوں کا روشن اور چمکدار مستقبل جس کی اسے تلاش تھی بہت دور بلندیوں پر چمکتا نظر آ رہا تھا۔ اور اسے بہر حال وہاں پہنچنا تھا۔ اندر ہیرے غاروں سے گزرتے ہوئے وہ سردی اور خوف سے کانپ کانپ گئی اور پھر اس سے نکل کر تیز دھوپ میں نکلتے پھروں پر جھلتے پیروں سے گزرنا پڑا۔ راستہ مشکل تھا مگر طے ہوتا رہا، بلندی قریب آتی گئی۔ وہاں تک پہنچنے کی دھن میں اسے اپنے تن بدن کا ہوش ہی کہاں تھا کہ وہ پیچھے مڑ کر یہ دیکھتی کہ اس کے پیچھے اس کے خون کی ایک لکیر ایک مسلسل گڈنڈی بنا تی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اس کی نظر سامنے تھی جہاں اس کے بچوں کا روشن مستقبل چمک رہا تھا۔ اسے اپنی سدھ بدھ ہی کہاں تھی کہ وہ اپنے تار تار ہوتے وجود کی خبر لیتی۔ اور جب کبھی ڈھن کا احساس ہوتا تو وہ زخموں کا جائزہ لینے کی بجائے فالصوں کا حساب کرتی کہ بس منزل اب قریب ہے۔

اور آخر کارکسی نہ کسی طرح وہ اس مسطح بلندی پر پہنچ گئی پھولتی ہوئی سانسوں، زخمی ٹانگوں اور اپنے ڈکھتے ہوئے وجود کو اس نے خود بخود وہاں گرا دیا۔ منزل مقصود اس کی دسترس

میں تھی۔ تحکن سے اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو جاتیں۔ وہ نیم بے ہوش سی ہو جاتی۔ اس احساس سے کہ اب اسے آرام کرنا ہے اور اس نے اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کر دیا ہے۔

لیکن لیئے لیئے ہی وہ اپنے اردو گرد اپنے بڑے ہوتے ہوئے آسودہ بچوں کو دیکھ کر چونک جاتی۔ ابھی تو اسے بہت کام ہیں۔ ابھی تو وہ منزلیں بھی طے کرنی ہیں اور ان کو اور محفوظ بلند یوں تک پہنچانا ہے۔ پھر نئے سرے سے اپنے تار تار وجود کو سیستی، پھروں کے درمیان راستہ بناتی وہ اس سمت چل پڑی جہاں اس سے پہلے کسی کے قدم نہ پہنچے ہوں۔ ایک خوش گوار اور محفوظ ترین مستقر کی تلاش میں وہ کئی دشوار گزار وادیاں طے کر گئی۔ اس تحکن اور زخم خوردگی میں اسے اپنے پیچھے آنے والوں کے نوجوان اور تابناک چہرے بھی دھنڈے نظر آنے لگتے مگر وہ ان چھروں کو اور بھی نکھارتی، انہیں مزید طاقتور بنانے کی دھن میں اگلی منزل کی جانب چل پڑتی۔ اپنے احتجاج کرتے زخموں کو چارہ سازی کا دلاسا دیتی ہوئی وہ گھستی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔

آخر کار وہ منزل مقصود پر پہنچ ہی گئی اور ایک فخریہ آسودگی سے اس نے اپنے جوان بچوں کو دیکھا۔ ایک سے ایک بہتر۔ سب کامیاب اور خوشحال، قابلِ رشک اس نے پلٹ کر اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے راستے کو دیکھا جس سے گزرتے ہوئے وہ کن کن اذیتوں اور عذابوں سے گزری۔ سب کچھ اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے راستے کی طرف اپنی پشت کر لی اور اپنا چہرہ ان چھروں کی طرف موڑ لیا جو اس کی زندگی بھر کی ریاضتوں اور کاوشوں کا حصل تھے۔ اس کے شانوں پر اب کوئی بوجھ نہ تھا۔ اس کے تلوؤں میں اب کوئی نیس نہ تھی۔ دور دور تک پھروں اور کانٹوں کا نام و نشان بھی نہ تھا جنہوں نے اس کے وجود کو تار تار کر دیا تھا۔ اب نہ تپتی جھلتی زمین تھی اور نہ شعلہ بار آسمان اور نہ رگوں میں خون کو منجد کر دینے والی گھپائیں۔ اس نے اپنی کامیابیوں اور کامرانیوں پر رشک آمیز مبارکبادیاں اور شاشاباشیاں وصول کیں اور مسرور ہو گئی۔

لیکن اس منزل پر پہنچ کر اسے جس اور گھن کا احساس ہونے لگا۔ نہ جانے کیوں فضا گرمی ہونے لگی۔ یہ سب کچھ اس وقت محسوس ہوا جب اس نے ستائشی اور گہری نظروں سے

اپنے بچوں کی طرف دیکھا اور اپنے چہرے پر اسے اُو کے تھیڑوں کے نکرانے کا احساس ہوا۔ اس وقت پہلی بار اسے اپنے پیروں کے نیچے لرزش سی محسوس ہوئی جب بہت سے شکایتی حروف ان کے چہروں پر کچھوؤں کی طرح کلباتے نظر آئے۔

اس نے اپنے بچوں کے چہروں پر بھیلے ہوئے شکایتی حروف کو پڑھنے کی کوشش کی۔ دونوں چھوٹوں کو اپنی تعلیم کی غلط Planning کا شکوہ تھا۔ بڑے کو یہ شکایت تھی کہ اسے تعلیم کی بجائے بنس میں دھکیل دیا گیا۔ لڑکی اپنی پسند کا رشتہ نہ ہونے پر خفافتی۔ ان سب کے چہروں پر غصہناک حروف سانپوں کی طرح بل کھاتے، پھکارتے نظر آئے ابے محسوس ہوا کہ یہ حروف شکایت، یہ بل کھاتے سانپ اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ پھر وہ ہمت کر کے دوبارہ ان کے چہروں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی۔ Latest فرنچر سے سجا ہوا ڈرائیور روم اپنے مکینوں سمیت مہیب سنائے میں گم تھا اور پلیٹوں پر چھوٹوں کی کھٹاکٹ اس کے دل پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح پڑ رہی تھی۔ دُز دیدہ نظروں سے اس نے ایک ایک جھکے ہوئے سر کو دیکھا اور سوچ میں ڈوب گئی۔ کیا یہ وہی اس کے جگرگوشے تھے جو ہمیشہ کھانے کی میز پر شور مچاتے، قہقہے لگاتے، ایک دوسرے کی روٹیوں اور بوٹیوں کے لیے چھینا جھپٹی کرتے اور پل بھر میں روٹھتے اور منتے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ سب کھانا کھاتے ہی اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آئیں گے۔ ایک دوسرے کو ٹھیل دھکیل کر اس کے قریب سے قریب تر ہونے اور اس کی گود میں بیٹھنے کی ضد کریں گے، کھیل کو د، لڑائی بھڑائی، شکوے شکایت، سبق، اسکول، دوستیاں، دشمنیاں، دنیا جہاں کے قصے بیان کریں گے۔

لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہر روز بوجھل قدموں سے وہ اپنے کمرے میں آتی اور دیر تک بستر پر پڑی اپنے بچوں کا انتظار کرتی۔ برابر کے کمروں سے آئی ہوئی آوازوں کو سنی آن سنی کرنے کی کوشش کرتی۔ ان کی محرومیوں پر اپنے لیے طنزیہ جملے اس کی سماعت سے نکلا کر دیر تک گونجتے رہتے۔ یہاں تک کہ اس کے کانوں میں خوفناک سائیں سائیں اور پیروں تلے گڑگڑا ہٹ کے ساتھ اس کے پورے وجود میں لرزش شروع ہو جاتی اور وہ پسینے میں تر تر

AC کا سوچ آن کرنے کو لڑکھراتے قدموں سے بڑھتی۔

آج تو سر شام ہی سے گھر میں غیر معمولی سنا نا محسوس ہو رہا تھا۔ آج دو پہر ہی سے وہ سب کے سب برابر کمرے میں سر جوڑ کر فیصلے کرنے میں مصروف تھے۔ فضا میں ہولناک سنا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شکایتی حروف کے زہر میلے سانپ اب اس پر حملہ آور ہوں گے۔ شاید اسی لیے اس خنک شام میں بھی گھٹن، گرمی اور جس کا شدید احساس ہو رہا تھا۔

خطرہ ہر لمحے نزدیک تر آتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار بہت بڑھ گئی تھی۔ عجیب و غریب آوازیں طوفان کا شور برپا کر رہی تھیں۔ اس شور میں ان سب کے قدموں کی چاپ نمایاں تھی اور لمحہ قریب سے قریب تر آ رہی تھی۔

وہ بستوراپنے بستر پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ یہ بستر وہی تھا جس پر وہ سب ایک ساتھ اس کے پاس ہوتے اور اس سے زیادہ سے زیادہ قریب رہنے کی ضدیں کرتے تھے۔ سب ایک ساتھ اودھم مچاتے تھے اور وہ چادر و سمنے اور اسپرنگ کے ٹوٹنے کا واویلا کرتی اور ایک ایک کو اپنے قریب تر سلانے کی کوشش میں خود سمت سمنا کر مردرا کر سو جاتی تھی۔

اور آج وہ اسی بستر پر جس کی چادر شفاف اور بے شکن تھی خاموش بیٹھی آنے والے طوفانی لمحوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سب اس کے سامنے آ بیٹھے تھے۔ ہتھیاروں سے لیس اس کے مقابل صفائح آ راتھے۔ زندگی میں پہلی بار اسے شدید کمزوری کا احساس ہوا اور اس نے بے چارگی اور امید بھری نظروں سے باری باری ایک ایک کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک بھی اس کے کا نپتے ہوئے شکستہ وجود کو اپنے بازوؤں کے حصاء میں محفوظ نہیں کر سکتا تھا۔ ان میں سے کوئی تو ہوجوز لے اور طوفان کی زد سے اسے بچالے اور وہ کسی نہیں سے بچے کی طرح ان کے سینے پر سرکھ کر ایسی گھری نیند سو جائے کہ پھر نہ اٹھے۔

اس نے شکاریوں میں گھرے ہرن کے بچے کی طرح ایک ایک کو رحم طلب نظروں سے دیکھا۔ ان کے درشت چہروں پر نفرت اور حقارت کے سوا کچھ نہ تھا۔ حروف شکایات ان کے ہونٹوں سے نکل کر اس کے دل پر برس رہے تھے۔

"Wrong Planning"

"Wrong Decision"

Wrong Administration"

لا پرواہی، لا تعلقی، عیاشی، خود غرضی، الزامات آگ کے شعلوں کی طرح ہر سمت سے اس پر برس رہے تھے اور اس کے وجود کو جھلائے دے رہے تھے۔ ان کی فردی جرم کا ہر لفظ حرف جرف بکھر کر اس کی سمت بڑھ رہا تھا۔

اچانک اسے یوں لگا جیسے Wrong کا 'O' پھندا بن کر ایک جھٹکے سے اس کی گردن میں آپھسا۔ 'W' نے بل کھا کر اس کے سارے جسم کو جکڑ لیا۔ اس نے بھاگنا چاہا تو 'R' کی پھیلی ہوئی ٹانگوں نے اڑنگا لگا کر اسے گرا دیا۔ عیاشی کے 'U' نے اپنی زنبور نما چونچ سے اس کی بوٹیاں نوچنی شروع کر دیں۔ اور وہ بے دم ہو کر بستر پر گر پڑی۔ حروفِ ملامت پورے طیش و غضب سے اس پر حملہ آور تھے۔ کاری ضر میں لگا رہے تھے اور وہ چینیں مار رہی تھی۔ اس کا وجود پارہ پارہ ہوا جا رہا تھا اور ریزہ ریزہ ہو کر دھنکی ہوئی روئی کی طرح نزم، ملامم اور لطیف بن کر فضا میں تخلیل ہوتا جا رہا تھا۔ خوف اور تھکن سے دور وہ اپنے وجود کے سمندر میں ڈوبتی جا رہی تھی، ہوا کی طرح ہلکی ہو کر نامعلوم فضا وں کی جانب اڑی جا رہی تھی۔

عالی شان بنگلے کے لان میں سے کسی نے پوچھا:

"جنازہ کب اٹھے گا؟"

بھیڑ میں سے کسی نے اپنے کسی ساتھی سے سرگوشی کی:

"مرحومہ نے تمام عمر دنیا ہی کمائی۔ اللہ مغفرت کرے"



## سنگ سار

بہت دیر سے بستر پر آنکھیں بند کیے وہ رات کے گزرنے اور صبح کے ہونے کو محسوس کر رہی تھی۔ سورج کی کرنیں کھلی ہوئی کھڑکی سے اس کی آنکھوں میں سامنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ مندی ہوئی آنکھیں یوں ہی بند رہیں۔ آنکھیں جو بیتے ہوئے دنوں کے سپنوں سے بسی ہوئی تھیں۔ اور آج کے بعد اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے خوابوں کو حقیقت کی گرم دھوپ فنا کر دے گی۔ کیونکہ آنے والا دن آٹھ نومبر کا تھا۔

تمام رات وہ اپنے بستر پر تڑپتی تھی۔ یادوں کے پرے وڈیو فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتے رہے تھے۔ گرد و پیش کے سکوت اور نائلے کے حصار سے نکل کر حال کے جنگلوں میں الٹے پیروں چلتی ہوئی وہ وہاں پہنچ گئی تھی جس کے آگے شفقوں

اور پیار کے خنک جھرنوں کی مترنم آوازیں تھیں، خوشگوار آسودگی کی وہ فضائی جس میں وہ عامر کا ہاتھ پکڑے نہ جانے کتنی صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ ویڈیو فلم کے کیست کی ابتداء اس کے بچپن کے ان دنوں سے ہوتی ہے جب گرمیوں کی دوپہر میں وہ عامر کے ساتھ ابیاں چلتی اور امیاں توڑتی۔ برسات کی رم جھنم اور کالے بھیگے بادلوں کے سائے میں وہ اور عامر جامن کے درخت کی شاخیں جھکورتے اور دوڑ دوڑ کر جامنوں کی چوٹ کھاتے ہوئے چنتے اور قیچے لگاتے۔ درختوں سے لگے جھو۔! میں ساتھ ساتھ پینگیں لیتے۔ سردیوں کی راتوں میں انگیٹھی کے گرد دادی اماں سے نئی نئی لہانیاں سنتے وہیں سو جاتے اور صبح پراسرار کہانیوں کے پراسرار خوابوں پر حیران ہوتے اور آپس میں خوب لڑتے۔

اور پھر جب منظر بدلتا تو وہ عامر کے ساتھ مولوی صاحب کے سامنے ہل کر آموختہ پڑھتی نظر آتی۔ دونوں ساتھ ساتھ بستے گلے میں ڈالے اسکول کو جانے والی سڑک پر دوڑتے نظر آتے۔ اسی گھر کے آنکن میں چاندنی راتوں میں دھوپ چھاؤں کھیلتے ہوئے ہر جگہ عامراس کے ساتھ ہوتا۔ اسکول سے کالج تک بے شمار اہم اور غیر اہم واقعات وہ ایک دوسرے کو نانے کے لیے بے چین رہتے۔ تھواروں اور تقریبات کی دھوم دھام میں ہر چیز کی خریداری کے لیے بار بار بازار کی طرف دوڑنا ایسے ہر موقع پر عامراس کے ساتھ ہوتا۔ کالج میں ہر مضمون کے سلسلے میں عامر کا سہارا لینا اس کا معمول تھا۔ معاشیات اور ریاضی کی گتھیوں کو سمجھانے کے لیے گھنٹوں وہ دونوں سر جوڑے بیٹھے رہتے۔ یادوں کی ویڈیو فلم فلیش بیک میں چلتی اور عامر کا وجود سے ہر جگہ اپنے سائے میں لیے ہوئے چلتا۔ ہر گلڈنڈی، ہر موڑ اور ہر شاہزادہ اس کے وجود سے روشن ہو جاتی۔ مسرت و اطمینان کے اس ماحدوں میں وقت کی صارفتاری کے ساتھ وہ ایک دوسرے کی شخصیت میں ضم ہوتے نہ جانے کب سے چلتے جا رہے۔

عامر کی مضبوط شخصیت وہ تناور درخت تھی جس کے گرد فرن کی نازک بیل کی طرح وہ اپنی سربزی پر نازاں پھیلتی ہی چلی گئی۔ ہر شاخ پر اس کی نہنہیں نہنہیں کوچلیں اس کے بازوؤں کو

سہلاتی، تھکتی رہتیں اور غیر محسوس طور پر اس کے وجود سے نسلک ہوتی چلی گئیں۔ آج سات نومبر ہے۔ یہی وہ دن ہے جب برسوں پہلے وہ دھوم دھام سے بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی جس کے آنکن میں بیری کے درخت پر طوطوں کی ڈاریں، اترتی تھیں اور بیریاں کتر کتر کر پھینکتے ہوئے ان کی دھیسی دھیسی سرگوشیوں سے سارا آنکن آج بھی دیے ہی گونج رہا ہے۔ بیریں عامر کو بہت پسند تھیں اور اب بھی وہ ہر صبح سنہری، شنگرفی بیریں بید کی باسکٹ میں ہرے پتوں کے درمیان سجا کر رکھ دیتی۔ سات نومبر کی صبح پچھلے دس برسوں سے یونہی طلوع ہوتی تھی کہ رات بھر گزرے ہوئے برسوں کا ایک ایک لمحہ، ساری رات قطرہ قطرہ اس کے دل پر پکتا رہتا۔ بیتی ہوئی مرتیں پہاڑ کے بادلوں کی طرح اس کی جاگتی آنکھوں میں دھند بن کر اترتی رہتیں۔ پھر یہ نرم خنک بادل ایک دم سے انقلاب کے سیاہ مہیب پہاڑ سے ٹکرا کر شیشے کی کر چیاں بن جاتے جو اس کے پورے وجود میں چھپ کر اسے سراپا زخم بنادیتے۔ ہر سال وہ اپنے زخمی وجود کو گھستی ہوئی تاریک جنگلوں میں بھکتی، سنگین سنائی کی دیواروں میں سے نکل کر بے کفن لاشوں کے درمیان سے راستہ بناتی، ہر قدم پران سے ٹکراتی اور تھک کر چور چور ہو جاتی۔ ہر سال اس ایک رات میں وہ برسوں کا طویل سفر طے کرتے کرتے کرتے نہ حال اور درماندہ ہو جاتی۔

لیکن آج سات نومبر کی اس رات کو تو جیسے ہر قدم پر بے کفن لاشوں نے اپنی پتھرائی ہوئی آنکھیں اس پر گاڑ رکھی تھیں۔ ماں کی ممتا، باپ کی وارثی، بہن بھائیوں کی چاہت، ایک ایک کا پیارا اور تمام شفقتوں نے جیسے اس پر یلغار کر رکھی تھی۔ اپنی اپنی محبت اور پیار کا واسطہ دیتے ہوئے، گزرے ہوئے تمام آسودہ لمحوں کو نچاہو کرتے ہوئے وہ سب اس سے دامن کشاں تھے۔ اور ہمیشہ کی طرح عامر کا پیاراں سب پر محیط تھا۔ لیکن آج اسے گزرے ہوئے راستوں کی تمام دھول سمیٹ کر ان قبروں کو پاٹنا ہے اور ان بے کفن میتوں کے ساتھ اپنے وجود کو بھی دفن کر کے حال کے بہتے پانیوں میں خود کو چھوڑ دینا ہے۔ ویڈیو فلم کی طرح

نظروں کے سامنے سے گزرنے والے ان مناظر میں عامر کہاں تھا۔ وہ تو اس کے گرد بے کفن بکھری ہوئی لاشوں کے ڈھیر میں بھی نہ تھا۔ وہ کہاں گم ہو گیا تھا؟

اور پھر جب منظر بدلتا ہے تو محسن اس کے سامنے تھا۔ اب تو اسے محسن کے ساتھ جینا ہے۔ محسن جس نے اس قیامت میں اسے سہارا دیا جب اس جیسی ہزاروں عورتوں کے وجود غلاظت سے بچتا دلدل میں گم ہو گئے تھے۔ لیکن محسن تھا جس نے اس کے کچھ میں لمحہ سے ہوئے وجود کو محبت سے اٹھایا، دھویا اور پیار کے نرم تولیے میں اسے لپیٹ کر عزت و وقار کا لباس پہنا یا۔ محسن کے لیے اس کا دل عقیدت و احترام کے جذبات سے معمور ہے جس نے گزشتہ برسوں سے اُسے اپنے مندر کے سنگھاں پر یوں سجار کھا ہے جیسے اسے سونبُر میں جیت کر لایا ہو۔ سونبُر، جس میں وہ لاشوں کے درمیان راج کمار یوں کی شان سے کھڑی تھی اور اس کے مقابل کھڑے تھے راج کمار محسن کے گلے میں ڈالنے کے لیے اس کے ہاتھوں میں کوئی ملا بھی نہ تھی۔ محسن، جس نے گلی میں رلنے والے پھر کے ایک حیران گزے کو اٹھا کر مسجد کے مینار میں نصب کر دیا تھا اور یوں اسے بلندی نصیب ہوئی تھی۔ اب تو اسے محسن ہی کے لیے جینا تھا جس نے اس کی خاطر اس کے عزیزوں کے خون سے رنگیں گھر کو اپنی محبت کی پھوار سے دھونے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ لیکن اپنے گھر کی دیواروں کے نیچے اکثر اسے اپنے پیاروں کے چہرے جھانکتے نظر آتے۔ ان سب میں عامر کا چہرہ نمایاں ہوتا جس نے محبت کے ڈھیروں پھول اس پر نچھاوار کیے تھے۔ اسے ممتاز کی لذت سے آشنا کیا تھا۔ لیکن اب اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اب تو وہ محسن کی امانت ہے۔ وہ محسن جسے اس نے سب کچھ کھو کر پایا ہے اور جو اپنے خون جگر سے اس کے لیے جنت کی تعمیر کا عزم لیے ایک اجنبی دلیں میں بے وطنی اور جدائی کا کرب جھیل رہا ہے۔ سال میں صرف ایک بار ایک مہینے کے لیے آتا ہے اور اس کی اداں زندگی میں خوشیوں کے پھول کھلانے کی نوید سنا کر چلا جاتا ہے۔ اور اس کا اپنا دل جو دیوار پر لشکے ہوئے کلاک کی طرح سال بھر ساکت رہتا ہے اور صرف سات نومبر کو نیک نیک کر کے دھڑ کنے لگتا

ہے۔ ہر گھنٹے بجتا ہے اور آٹھ نومبر سے پھر ویسا ہی ساکت ہو جاتا ہے۔

لیکن اب وہ یہ سلسلہ ختم کر دے گی۔ دیوار سے لٹکے ہوئے اس پرانے کلاک کو اتار دے گی جو اسے اپنے ماں باپ، بھائی، بہن اور اپنے اکلوتے بچے کی بے کفن لاشوں کی یاد لا دلا کر اسے رلاتا ہے۔ اب تو وہ اس دیوار پر وہ خوبصورت، شہری ڈیجیٹل گھڑی آؤزیں کرے گی جو اس کا محسن بیرون ملک سے لایا تھا اور جس سے ہر تیس منٹ بعد موسیقی کی دھنیں پھوٹی تھیں۔ اب وہ موسیقی کی اس دھن سے خود کو ہم آہنگ کر دے گی اور محسن کے پیار کی حدت محسوس کیا کرے گی۔ پچھلی رات اس کی یادوں کی شب آخڑتھی اور سوگواردن ماضی کی ان تلخ یادوں کا تتمہ تھا جسے آج وہ دفن کر دے گی۔ پچھلے دس برسوں سے سات نومبر کی اس تاریخ کو وہ اپنے گھر کو عامر کی پسند کے مطابق سجا تی۔ بڑی محنت اور شوق سے اس کی پسندیدہ ڈشز تیار کر کے میز پر سجادیتی اور پھر اپنے سوت کیس کی تہہ سے اپنا عروسی جوڑا نکال کر پہنچتی، اپنی پسندیدہ خوشبوا پرے کرتی۔ جا به جا گھر والوں کی تصویریں آؤزیں کرتی۔ بڑے اہتمام سے عامر کی بڑی سی تصویر نکال کر گود میں رکھ لیتی اور اپنے کامدار آنچل سے اس پر ٹکنے والے آنسوؤں کو پوچھتی۔

نہ جانے کب تک اسی طرح وہ فریم کو دھوٹی اور پوچھتی رہتی یہاں تک کہ ابتدائی سردیوں کی خنک ہوا اس کے گالوں پر آنسوؤں اور اس کے آنچل کو خشک کر دیتی۔ اور تب وہ تصویر کو اس کی مخصوص جگہ پر لگا کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور اس کے بولتے ہونٹوں اور چمکتی ہوئی شریر آنکھوں سے وہ سب کچھ سنتی رہتی جو اس کے ذہن پر نقش اور کانوں میں رچے ہوئے تھے۔ پھر نائل کی آواز پر اس کی آوازیں حادی ہو جاتیں۔ ہر شے معدوم ہو جاتی اور اس کا اپنا ماحول اور اپنے پیاروں کی آوازوں سے گھر کا نانا گونج اٹھتا۔ شام تک وہ انہی آوازوں میں کھوئی خاموش بیٹھی رہتی یہاں تک کہ شام کی سوگواری رات کے اندر ہیرے میں ڈھل جاتی۔ ہر صورت دھنڈلی ہوتے ہوتے معدوم ہو جاتی۔

آج بھی سب کچھ اسی طرح ہو رہا تھا۔ مگر آج اس کی آرزوں اور تمناؤں کا یہ ماتم بہت دل گدا رہا۔ آج اسے اس اہرام کو ڈھاندا یا تھا جس کی ہر دیوار پر اس کے پیاروں کی تصویریں آؤیں گے۔ اس خیال سے بار بار اس کا لیجہ منہ کو آ رہا تھا کہ ماضی کے یہ نقوش جن کے ساتھ وہ مر کر بھی زندہ تھی ہمیشہ کے لیے مت جائیں گے۔ سب مر جائیں گے اور صرف وہ زندہ رہے گی۔

لیکن وہ کیوں زندہ رہے گی؟ اس سوال کی درانتی نے جیسے اس کے وجود کو چیر ڈالا۔ اور اب اس کے آنسوؤں کو پوچھنے والا، ان کی نمکینی کو اپنے ہونٹوں میں جذب کر لینے والا کوئی نہیں رہا۔ ہر طرف سائیں سائیں کرنا سنانا اسے ڈس رہا تھا۔ وہ بے سدھ ہو کر مسہری پر گر گئی۔ ابتدئے ہوئے آنسو گالوں سے ڈھلک ڈھلک کر اس کے سرخ عروی ڈپٹے میں جذب ہوتے رہے اور خنک ہوا کے جھونکے ان کو خشک کرتے رہے۔ سامنے عامر کی تصویر مسرت آمیز شرارت سے اسے تکے جا رہی تھی۔ باہر نومبر کی چمکیلی دھوپ ڈھل چکی تھی اور شام غربیاں کی اسننہائی میں۔ مہیب سنائی میں گھری ہوئی وہ اپنے وجود سے بے نیاز فنوٹو فریم پر سر کھے دیر سے ڈھال سی بیٹھی تھی۔ اچانک بہت دور سے آتی ہوئی کالیل کی آواز سنائی کو چیرتی ہوئی اس کی سماعت سے نکرائی اور وہ بے مشکل کھڑکی تک گئی۔

اور اس کا ڈوبتا ہوا دل ایک دم سے اچھل کر جیسے حلق میں آ رکا۔ شام کی ملکجی روشنی میں اس نے سامنے کھڑے شخص کو بے یقینی سے دیکھا۔ یہ تو وہی تھا۔ بالکل وہی۔ وقت کی کڑی دھوپ نے اس کے بالوں کھلسا دیا تھا اور چہرہ غم کی آنچ سے سنوا گیا تھا۔ باقی سب کچھ وہی تھا۔ اس نے جھپٹ کر دروازہ کھولا اور وہ جھیکتا ہوا اندر آیا اور وہ خواب زدہ سی اس کی چھیلی ہوئی بانہوں میں سما گئی۔ یہ ہوش کا آخری لمحہ تھا۔ غم بھراں کا بے آواز شکوہ، خواب نما انبساط کا نامعلوم احساس جیسے دھڑکنوں میں اترتا چلا گیا۔ سرخوشی اور سرشاری کے لمحات بیتے جا رہے تھے کہ عامر کی سرگوشی نے ایک دم سے اسے جھنچھوڑ کر بیدار کر دیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہہ

رہا تھا ”سب کچھ ویسا ہی ہے کچھ بھی نہیں بدلا“، وہ یک لخت اس کے بازوؤں کے حصار سے نکل کر علیحدہ کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اب کچھ بھی ویسا نہ رہا جیسا وہ چھوڑ گیا تھا۔ لیکن عامر کے جذبے کی شدت میں وہ الفاظ اس سے ادا نہ ہو سکے۔

سرشاری کے ان لمحات میں وہ اسے اس انقلاب کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی جو اس کے وجود کو روشن کر چلا گیا اور یہ کہ اب وہ دوسری کشتی میں سوار ہو کر کسی اور کے ساتھ بہت دور جا چکی ہے۔ وہ جس نے اسے قلزم خون سے نکالا اب اس کا ناخدا بھی ہے اور ہم سفر بھی اور وہ سب کچھ جو کبھی تھا خون کے دریا میں بہہ گیا اور یہ کہ زندوں کا تعلق مردوں سے ممکن نہیں لیکن عامر کے جذبے کی شدت اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دے رہی تھی۔

بہت دیر بعد جب طوفان تھما اور آنسوؤں کا سیلا ب بہہ نکلا تو وہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں روتے ہوئے عامر کو دیکھ رہی تھی اور اب بھی یہ الفاظ اس کے ہونٹوں سے باہر آنے کے لیے بے تاب تھے کہ اس سے اس کا کوئی رشتہ نہیں رہا اور ابھی اس کے اس طرح اچانک آجائے سے پہلے وہ اپنی محبت کی صد سالہ پرانی ممی کو دفن کرنے جا رہی تھی۔ لیکن عامر کے آنسوؤں نے اسے بے کل کر دیا تھا اور وہ بے اختیار اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ یہ ہوش کا آخری لمحہ تھا جو اس کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ کمزوری مرجھائی ہوئی فرن کی باریک جڑیں پائیں کے کھر درے تنے سے خود بخود لپیتی چلی گئیں اور ہمیشہ کی طرح اس کی نازک جھالیں شاخوں کا جھومر بن گئیں اور پہاڑ کی دھندا اس کے چاروں طرف اس طرح پھیل گئی کہ مانوس خنکی اور آسودگی کے احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

ایک دم سے کیسٹ ریوانہ ہو گئی اور وہ اسی ماحول میں پہنچ گئی جہاں وہ ازل سے رہ رہی تھی۔ پہاڑوں کی اسی بلندی پر جہاں بادلوں سے باہر کوئی اور دنیا نہیں تھی۔ وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ اور جب اسے ہوش آیا تو اس کا حساب گم ہو چکا تھا۔ عامر اسے جلد سے جلد اپنی دنیا میں واپس لے جانے کے لیے ضروری کارروائی کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ دھنڈ چھٹ چکلی

تحی۔ بادل بہت دور گھری وادیوں میں اتر چکے تھے اور سورج سوانیزے پر چمک رہا تھا اور پہنچنے والی زمین پر وہ اس احساس سے لکھل رہی تھی کہ عامرا پنے جذبے کی شدت میں اس کی اصلی صورت دیکھئے بغیر ہی چلا گیا۔

اور اب محسن کا میاہی کے نشے میں سرشار آنے ہی والا تھا اور آتے ہی وہ اپنے تاج محل کا ذکر پورے جوش و خروش سے شروع کر دے گا۔ لان، ٹیرس، ڈرائیور، ڈائرنگ، صوف اور پردوں کی میچنگ۔ اس پُرمِ سرت زندگی کی نوید جس میں وہ آدم و حوا کی سی زندگی بر کریں گے۔ لیکن اب وہ اسے کیسے بتائے گی کہ اس کی حوالہ جگہ منوع کے ناکرده گناہ کی مجرم، جنت کے لباس سے محروم اپنی بڑنگلی پر کانپ رہی ہے۔ اس کا پورا وجود تھا ہو چکا ہے۔ اور اس کا دم اس تصور سے گھٹ رہا تھا کہ وہ محسن کو کس طرح بتائے گی کہ اس کا گم شدہ راستہ مل گیا ہے۔ یہ انکشاف اس کے لیے ایک دھماکہ ثابت ہو گا اور جفا کشی اور ایثار سے تعمیر ہونے والے خواب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس انکشاف سے اس پر کیا گزرے گی اس تصور نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ صرف اس کا محسن ہی نہیں ہے بلکہ اب خوشیوں اور ولولوں سے بھر پورا اس کی زندگی کا محور ہے۔ اس کی محبت کو وہ ملبوں کا ڈھیر کس طرح بننے دے گی۔ وہ اس کی آرزوں میں پوری کرے گی کہ اس کے ساتھ اس کے ہرے بھرے لان میں فوارے کی پھوار میں بیٹھ کر شام گزارے گی۔ چاندنی راتوں میں مالتی کے پھولوں سے بھری جھالروں والے ٹیرس پر معطر چاندنی میں اس کے ساتھ مخمور ہونے کے خواب ضرور پورا کرے گی۔ یہ ان دونوں کا حق ہے۔ عامر، امی، ابو اور اس کا نحاس باب ماضی کی گرد میں دب چکے ہیں، خواب بن چکے ہیں۔

لیکن عامر تو اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آرہا تھا۔

کاش اس نے یہ خواب نہ دیکھا ہوتا۔ ایسی جان لیوا آرزو نہ کی ہوتی۔ اس نے سوچا کہ عامر کی واپسی سے پہلے وہ یہ گھر چھوڑ جائے گی۔ وہ آئے گا اور ناکام چلا جائے گا۔

لیکن اس کے ساتھ ہی عامر کا ملوں چہرہ اس کی نظروں میں گھوم گیا۔ وہ دل شکستہ انسان جو اس کے دائیٰ قرب کے خیال سے مرکر زندہ ہونے جا رہا تھا۔ وہ شخص جس کے لمس نے اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ رشتہ جوڑ دیا تھا۔ اس کے بغیر اس کا وجود بے معنی تھا۔

اس کے ساتھ ہی اسے محسن کا خیال آیا۔ وہ کس طرح اس کے پُر شوق جذبوں کا ساتھ دے گی۔ اور عامر اس حقیقت کو کس طرح برداشت کرے گا کہ وہ برسوں سے محسن کی بیوی ہے۔ نہیں..... اب وہ کسی کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ پورے دودن اور دو راتیں اس نے اپنے وجود کو سمینے کی کوشش کی اور تب اس نے اس حقیقت کو جسے وہ ان دونوں کے سامنے ادا کرنے سے قاصر ہی ہے لفظوں کے سہارے ان تک پہنچا دے گی۔ شاید وہ دونوں اسے اس دلدل سے نکالنے کی کوئی تدبیر کریں جس میں وہ گردن تک ڈھنس چکی تھی۔

اور آج ڈاک کے ایک جیسے دو لفافے اس کے سامنے میز پر پڑے تھے۔ لیکن وہ ان لفافوں کو چھو نے اور ان کو کھولنے سے خوفزدہ تھی۔ صح سے دو پھر ہو گئی اور پھر دو پھر بھی سنوارنے لگی۔ بڑی ہمت کر کے اس نے وہ لفافہ کھولا جس پر عامر کی تحریر تھی۔ عامر نے اس کی پُر سکون اور پُر آسائش زندگی کو مغلوبِ الحالی میں تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اسے باضابطہ طلاق سے نواز دیا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ شدید اضطراب کے عالم میں اس نے محسن کا خط کھولا۔ اس نے لکھا تھا کہ بھٹکے ہوئے پرندے کو اگر اس کا گھونسلہ مل جائے تو پرندے کی اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ واپس اپنے گھونسلے میں چلا جائے۔ اس نے لکھا تھا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اس کا سر درد کی شدت اور ہفتوں کی بے خوابی سے بچنا جا رہا تھا۔ اس نے میز کی دراز سے خواب آور گولیوں کی شیشی نکالی اور اپنی ہتھیلی پر انڈیل کر گئے بغیر نگل گئی۔ پھر اس نے پانی کا بھرا ہوا گلاس اٹھایا اور ایک سانس میں خالی کر دیا۔

## بے بال و پر

اور جب وہ اپنے کمرے میں تھا پڑے پڑے اکتا جاتا تو اپنے کپاڈ میں لگے اس گھنے اور سر بزر درخت کے سائے میں جا بیٹھتا جوان دنوں اس کی تمام دلچسپیوں کا مرکز تھا۔ پھر وہ اس کے اوپر نچے قد، دور دور تک پھیلی ہوئی سڑوں شاخوں اور ان پر لگے ہوئے بزر چمکدار پتوں کو بہار کی سبک خرام ہواں میں رقص کرتے دیکھتا۔ چمکیلے پتوں میں ملبوس شانخیں جیسے اتر اتر اکسر گوشیوں میں جوانی اور اس کی بیتاب امنگوں کی باقی میں کرتیں، نیلے آسمان پر تیرتے ہوئے دودھیا بادلوں کی سبک خرامیوں پر جھومتیں اور ہوا کے زور سے یوں تن جاتیں جیسے بادلوں کو چھو لیں گی۔ جوانی سے سرشار اس تناوار درخت کی ایک ایک ادا میں وہ پھر وہ گم رہتا۔ چمکیلے بزر پتے سورج کی نرم، گرم اور مہربان کرنوں کو جیسے اپنی بانہوں میں سمیٹ لینا چاہتے ہوں، ہمکنی، ڈولتی اور جھومتی شانخیں روشن اور چمکیلی دھونپ میں اپنا سینہ پھلائے تازگی

اور تو انی سیمیٹی اسے بڑی بھلی لگتیں۔

اسی درخت پر ایک زرد، اداس اور تنہا پتا بھی تھا جس کی تازگی اور رنگت کو خزان کے بے رحم ہاتھوں نے پامال کر دیا تھا اور اب وہ زبانِ حال سے اپنے اجزے ہوئے شاب کا نوحہِ الہم سنار ہا تھا۔ وہ اس اداس اور تنہا پتے کو بڑی حسرت سے دیکھتا جس کا رنگ دھوپ میں جل جل کر بھورا ہو گیا تھا، جس کی رگوں میں قوت نمو اور نمی کی آخری رقم بھی ختم ہو چکی تھی مگر مکڑی کے ایک جالے کے سہارے وہ اب بھی درخت سے لٹکا ہوا تھا اور کسی طرح اس کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ بھری بہار میں اس سوکھے چمرے پتے نے گویا ان جوان شاخوں کی مضبوط بانہوں کا سہارا لے لیا ہو۔ لیکن درخت کی شاخیں اور ہرے ہرے شاداب پتے جیسے اسے اپنی پناہ میں لینے سے گریزاں ہوں۔ اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ زور زور سے جھوم جھوم کر اپنا دامن اس سے بچا رہے ہوں۔ یوں جیسے اس سوکھے مرے پتے کے کھدرے لمب سے ان کی محملیں سطح کے داغدار ہو جانے کا اندریشہ ہو۔ شاید وہ اپنی روشن پیشانی پر بد نمائی کا یہ داغ برداشت کرنے کے روادرانہ تھے۔ حالانکہ مکڑی کے جالے سے لٹکتا ہوا یہ پتا تیز ہوا کے جھونکے سے کسی بھی لمحے ز میں بوس ہو سکتا تھا۔

اپنی شاخوں کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے ان گنت پتے ایک تنہا، اداس پتے کو سہارا نہیں دے رہے تھے اور وہ بڑی بے بسی سے جھولتا ہوا زندگی کی دہائی دے رہا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا کہ تیز ہوا کے جھونکے اسے جھنچھوڑے ڈال رہے ہیں۔ اس کی کمزور سوکھی پسلیاں تنے سے نکلا نکلا کر ٹوٹ رہی ہیں لیکن وہ جو اپنی شاخوں کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں، تالیاں بجا بجا کر اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ اداس ہو کر تھرڑاتا کا نپتا اپنے کمرے میں جا کر لیٹتا تو اس کے سر کا درد اور بڑھ جاتا۔ اس میں اٹھ کر کمرے کی کھڑکیاں بند کرنے کی بھی سکت نہ رہتی اور لندن اور نیو یارک سے آئے ہوئے اس کے بیٹوں کے خطوط تیز ہوا سے کمرے میں ادھر ادھر اڑتے رہتے۔ اور ان اڑتے ہوئے

اور اق سے اسے اپنی بہوؤں کی چوڑیوں کی کھنک اور پتوں کے معصوم قہقہے سائی دیتے۔ اور پھر انہی تصورات میں گم اسے نیندا آنے لگتی۔ چوڑیوں کی کھنک اور معصوم قہقہوں کی جھنکار مدد ہم پڑتے پڑتے فیڈ آؤٹ ہو جاتیں۔ پھر صحیح جب اس کی آنکھیں کھلتیں تو وہی تناور چھتنا ر درخت اس کے سامنے آ جاتا۔ وہ کمرے کی کھلی کھڑیوں سے باہر دیکھتا تو درخت چڑیوں کے چپھوں سے گونج رہا ہوتا۔ گھنی شاخوں اور سر بزر پتوں کے درمیان ہی چڑیاں چوں چوں کرتی بہار کی صحیح کا خیر مقدم کرتیں۔ نئے نئے پتوں میں پھدک پھدک کر آنکھ مچولیاں کھیلتیں۔ کبھی چونچ سے چونچ ملا کر بڑے پیار سے خاموش بیٹھی ہوتیں جیسے فضا کا تمام سرور اپنے وجود میں اتار لینا چاہتی ہوں۔ کبھی ایک دوسرے کے سروں پر ہلکی ہلکی ٹھونگیں مارتیں۔ چونچ سے پروں کو کریدتیں۔ ایسے میں ان کی چوں چوں میں ایک عجیب نغمگی اور وارثی ہوتی۔ ایک ایسا رسیا پن کہ وہ اپنے آپ کو پیار کی لہروں میں بہتا ہوا محسوس کرتا۔ چڑیوں کو ایک دوسرے کے گرد دیوانہ وار قص کرتے دیکھ کر وہ اپنے جوڑوں کا درد بھی بھول جاتا۔ بہار کے چپھوں سے آباد اس درخت کے پتے یوں لہراتے گویا چڑیوں کے گیت پر تالیاں بخار ہے ہوں۔ ایسے میں مکڑی کے جالے سے لکھتا ہوا وہ تنہا، سوکھا اور ادا اس پتا بھی جس کا رنگ اب بھورے سے سیاہ پڑتا جا رہا تھا، معطر ہوا اُوں میں یوں لرزتا جیسے درخت پر آباد چڑیوں کے گیت پر سرد ھن رہا ہو۔ درخت سے کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود وہ درخت سے لٹکا ہوا تھا۔ یہ احساس کیسا اطمینان بخش تھا۔

اور پھر جب سرد یوں کی رُت بیت گئی اور موسم گرم ما کا آغاز ہوا تو چڑیوں کی والہانہ چوں چوں میں ایک شہراً اور مگبیرتا پیدا ہوئی۔ سب کی سب ایک دم سے مستقبل کی فکر میں سر گردان نظر آنے لگیں اور گرے پڑے تینکے اور گھاس پھوس سمیٹ کر اوپنجی اوپنجی محفوظ شاخوں کے درمیان آشیانوں کی تعمیر شروع ہو گئی۔ وہ اپنے درد سے ٹوٹتے ہوئے گھنٹوں کو تھامے، جھکا جھکا کسی نہ کسی طرح درخت تک آ جاتا اور پھر اس کے تنے سے نیک لگا کر چڑیوں

کی آشیاں بندی کی جدوجہد دیکھتا رہتا۔ وہ ایک ایک کر کے تینکے، گھاس کی پیتاں اور پرانے چیزوں سے جانے کہاں سے چن چن کر لاتیں اور درخت پر پہنچاتی رہتیں۔ مختلف شاخوں پر نئے نئے گھونسلے بنتے گئے۔ اس کی وہندی آنکھیں ان دونوں روشنی محسوس کرنے لگی تھیں۔ اس کے پیروں کی سو جن بڑھ کئی تھی مگر وہ تکلیف سے بے نیاز تھا۔

اور جب آم کا وہ درخت خوبصورت، سڑول اور گدرائے ہوئے پھلوں سے سج گیا تو چڑیوں نے اپنے گھونسلے بھی مکمل کر لیے لیکن درخت کے تنے کے ایک نچلے کھوکھے حصے میں چڑیوں کے جس جوڑے نے اپنے گھونسلے بنائے تھے وہ نہ جانے کیوں اب تک نامکمل تھا۔ شاید وہ جوڑا اپنے گھونسلے کو بہت خوبصورت بنانا چاہتا تھا۔ شاید حسن تغیر اور آرائشگی کا ذوق ان میں کچھ زیادہ تھا۔ وہ خود اپنی عمر کا انتہائی حسین اور جاندار حصہ اس ذوق کی نذر کرنے کے بعد ایک عرصے تک اپنے شاندار کارناۓ پر فخر کرتا رہا تھا۔ اور جب وہ گھوم کر اپنے پیچھے کھڑے بڑھاپے کو دیکھتا، جونہ جانے کب دبے پاؤں اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا تو اسے ایک لمحے کو چکر سا آ جاتا لیکن پھر وہ یوں مطمئن ہو جاتا جیسے چلچلاتی دھوپ میں ریگستان میں سفر کرتے کرتے اچانک کوئی لمبا اوپنچا سایہ دار درخت اسے اپنی امان میں لے لے۔

چڑیا کا وہ جوڑا جس کا آشیانہ ابھی نامکمل تھا۔ بڑی تندی سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ چڑیا اپنی چونچ میں جانے کہاں کہاں سے رنگیں دھاگے، طرح طرح کے پر، کاغذ اور کپڑے کی دھیاں اٹھا اٹھا کر لاتی۔ کبھی وہ ادھر ادھر دیکھتے، اس کے قریب بھی آ جاتی اور اسے چپ چاپ بیٹھے شک و شبہ کی نظر سے دیکھتی۔ پھر اس کے سامنے پڑے تینکے اٹھا اٹھا کر لے جاتی۔ یہ چڑیا اب اسے اس قدر بے ضرر سمجھنے لگی تھی کہ کھلی کھڑکی سے اس کے کمرے میں آ جاتی اور نیچے پڑے بو سیدہ موئڈھے سے لٹکتی رسیاں چونچ سے ادھیز نے لگتی۔ شاید اپنے آشیانے کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے اسے ان رسیوں کی ضرورت تھی۔ بوڑھا آدمی شوق اور دلچسپی سے اس کے انہاک کو دیکھتا رہتا۔ ابتداء میں وہ بوڑھے کے قریب آتے ڈرتی تھی۔

پھر بیباک ہو گئی اور دیکھتی ہی دیکھتے مونڈھ سے تمام رسیاں نوچ کر لے گئی۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ آم کے اس تناور درخت کے تنے میں ایک نیا گھونسلہ ابھر آیا، ایک نیا گھر آباد ہوا۔ اور چڑیوں کا وہ جوڑا بڑے اطمینان سے اپنے نو تعمیر گھر میں بس گیا۔ اور جب گھر بن جائے، مستقبل محفوظ ہو جائے تو تخلیقی عمل کے جاری ہونے میں کیا قباحت ہوتی ہے۔ چڑیا نے انڈے سینے شروع کر دیے تھے۔ وہ اس عمل کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا۔ اپنے انہاک میں وہ جوڑوں کا درد بھی بھول جاتا۔ ہر روز اپنی ڈبل روٹی کا ایک حصہ وہ فرش پر ڈال دیتا جسے چڑا اپنی چونچ سے اٹھا کر لے جاتا۔ چڑا ان دنوں بہت مصروف رہتا۔ اسے انڈوں پر بیٹھی چڑیا کے لیے دانہ چین کر لانا پڑتا۔ اپنی چونچ سے ایک ایک دانہ اس کے منہ میں منتقل کرنا پڑتا اور پھر اس کی جگہ انڈوں پر بیٹھنا پڑتا۔ تخلیق کے اس عمل میں باہمی تعاون کا یہ جذبہ دیکھ کر وہ مسکرا اٹھتا۔ چڑا بڑی سنجیدگی سے محنت کر رہا تھا اور بڑی بے صبری سے انڈوں سے بچ نکلنے کا منتظر تھا۔

دن میں کئی بار وہ چلچلاتی دھوپ میں نکل کر پیڑتک جاتا۔ جھانک جھانک کر گھونسلے میں دیکھنے کی کوشش کرتا۔ اور کان لگا کر بچوں کی چوں چوں سننے کی کوشش کرتا۔ پھر بیقراری سے واپس آ جاتا۔

اس کے اشتیاق کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے جوڑوں کے درد سے بھی بے نیاز ہو گیا اور جو کسی سہارے کے بغیر کھڑا بھی نہ ہو سکتا تھا، اب بچوں کے بل کھڑا ہو کر گھونسلے میں جھانک رہا۔ ہر وقت کی کراہوں کا سلسلہ بھی رک سا گیا تھا۔ پھر جب آم کی سبز کیریاں چکیلی دانے دار سفیدی میں تبدیل ہو رہی تھیں اور ابھی ان میں زردی نہ آئی تھی تو ایک دن چڑیا کے گھونسلے سے چوں چوں کی کمزوری آوازیں ابھریں۔ بوڑھا گرتا پڑتا گھونسلے تک پہنچتا۔ چڑیا کا جوڑا گھونسلے کے اندر تھا اور ان کی خوشیوں بھری بے قرار چوں چوں کی آوازوں میں ایک بار یک اور کمزور چوں چوں بھی شامل تھی۔

پھر ایک دن لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ وہ جو تقریباً مفلوج سا ہو کر اپنے کمرے تک محدود ہو گیا تھا، اپنے پیروں سے سیدھا چل کر پنساری کی دکان تک گیا۔ وہاں سے باجرے کے دانے خریدے اور چمکتی آنکھوں اور سیدھی کمر کے ساتھ واپس آگیا۔ پھر جب آم پک کر پیلے ہو گئے تو درخت کا حسن اور نکھرا آیا۔ شردار شاخیں عجیب الیلے انداز سے جھومنے لگی تھیں۔ اور پتے تو جیسے ہر وقت خوشی سے تالیاں بجا یا کرتے۔ گرم لوک کے تھیڑوں میں ماضی کی یادگار وہ سوکھا، اداس اور تنہا پتا جو مکڑی کے جالے سے لٹکا ہوا تھا اب کچھ اور مض محل ہو گیا تھا۔ تیز ہوا میں بے بُسی سے ڈولتا سر بزرپتوں سے بھری شاخوں کو بڑی امیدوں سے تکا کرتا۔

اور اب چڑیا کے بچے جو کچھ بڑے ہو گئے تھے گھونسلے سے باہر اپنی ننھی چونچیں کھولے دانے کے منتظر ہوتے۔ باجرے کے دانے جو وہ درخت کے پاس بکھیر دیا کرتا تھا، ان کے والدین پھر سے اڑکر ان تک پہنچتے اور دانے اٹھا کر لے جاتے۔

اپنی چونچ سے دانے ان کے منہ میں ڈالتے جاتے۔ معصوم کالی آنکھوں والے بھورے بھورے سے دو بچے اب پروں سے آراستہ ہوتے جا رہے تھے۔ پہلے ہوئے دہانے پروں سے ڈھک کر مختصر ہو گئے تھے۔ وہ ان نئے مکینوں کو دیکھ کر پھولانہیں سما یا۔ جس گھونسلے میں ایک چڑے اور چڑیا نے اپنی زندگی شروع کی تھی، وہاں اب دو اور چڑیوں نے جنم لے لیا تھا۔ گھونسلے کی آبادی اور رونق میں اضافہ ہو گیا تھا۔

کچھ دنوں بعد یہ نئے بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ پھدک پھدک کر اترنے لگے اور نیچے درخت کے قریب بکھرے دانے چکنے لگے۔ اب وہ تھوڑا تھوڑا اڑنا بھی سیکھ گئے تھے۔ والدین بڑے انہاک سے اپنے نئے بچوں کو اڑنا سکھا رہے تھے۔ چوں چوں کر کے وہ ان کے سامنے اس طرح اڑتے جیسے کہہ رہے ہوں یوں اڑو بچو، شabaش! اور بچے سہم کر نئے نئے پر پھٹ پھٹا کر رہ جاتے۔ چڑیاں پھر قریب آتیں۔ چوں چوں کر کے فہمائش کرتیں۔ کبھی

دلائل دیتیں۔

اور وہ یہ سارا تماشا بڑی دلچسپی سے دیکھا کرتا جیسے اُس کے بچے ٹھنک ٹھنک کر کہہ رہے ہوتے۔ اب میں نہیں پڑھتا۔ مجھے نہیں آتا اس طرح لکھنا۔ ابا بس اب کل پڑھ لیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خوف اور جھگٹ بہت جلد دور ہو جائے گی۔ پھر یہ ہونہار بچے بڑی عظمتیں حاصل کریں گے۔ اسے چڑیا کے نوزائیدہ بچوں کو دیکھ کر بڑا پیار آتا۔ ان کا ڈرنا، سہم سہم جانا، ہچکچا ہچکچا کراہنے کی کوشش کرنا اس کے لیے ایسا مشغله تھا جسے وہ پہروں بڑی توجہ سے دیکھتا۔ پھر ایک دن جب درخت کے نیچے چڑیا کا جوڑ اسی طرح بڑی محنت و مشقت سے اپنے بچوں کو اڑنا سکھا رہا تھا، دیوار پر بیٹھی ایک بیلی جونہ جانے کب سے ان کی تاک میں تھی، اچانک اجل بن کر ان پر ٹوٹ پڑی۔ چڑیا کمزور تھی اور سہمی ہوئی تھی۔ وہ بیلی کا لقمه بن گئی۔ لیکن چڑا نیچے سے چھوٹ کر گر گیا۔ البتہ اس کے بازو پر ظالم بیلی کے دانت ایسے لگے تھے کہ وہ خون سے ترز میں پر پھر پھر اکراہنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اُس کا دل تڑپ اٹھا۔ دھڑکتے دل اور لرزتے ہاتھوں سے اس نے چڑے کو اس طرح اپنے ہاتھوں پر اٹھایا جیسے لٹھے ہوئے سرمائے کی آخری پونچی۔ چڑا ہانپ رہا تھا۔ تھر تھر ارہا تھا۔ اور اسے کانپتے تھر تھراتے دیکھ کر بوڑھے کا دل بھی لرزنے لگا۔ اس نے جھٹ بستر کی چادر کے کنارے سے دھیاں پھاڑ کر ٹھنڈے پانی میں بھگو بھگو کر اُس کے زخموں کو دھویا۔ پٹی باندھی اور پھر اسے دوا کے خالی ڈبے میں کپڑوں کے درمیان رکھ دیا۔

اس کام سے فارغ ہو کر وہ بچوں کو دیکھنے باہر نکلا۔ وہ بچے جو اڑنے کے خوف سے ڈکے رہا کرتے تھے، خطرہ دیکھتے ہی پھر سے اڑ پکے تھے۔ اب آم کی ٹھنڈیوں پر دوسرا چڑیوں کے ساتھ نئی اڑان کے غور میں پھولے بار بار ایک شاخ سے دوسری شاخ پر پھدک رہے تھے اور چھوٹی چھوٹی اڑانوں کا مزالے رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں، دیکھو، ہم کسی کے محتاج نہیں۔ اب ہم خود اڑ سکتے ہیں۔

درخت ویے ہی چڑیوں کے چپھوں سے گونج رہا تھا۔ زرد ہوتے آموں سے جھلکی اسی وقار سے آہستہ آہستہ بل رہی تھیں۔ سورج کی کرنیں گھنے چمکیلے پتوں کے درمیان دھوپ چھاؤں کا وہی کھیل کھیل رہی تھیں۔ سوکھا اداس پتا اسی طرح جھومتی شاخوں کا سہارا مل جانے یا لشکر رہنے کے عذاب سے چھوٹ جانے کی جدو جهد کر رہا تھا اور نیچے وہی بے کراں نہ مٹا تھا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے زخمی چڑے کو نکلنگی باندھے دیکھ رہا تھا۔ چڑے نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ کبھی کبھی ممنونیت سے شاید آنکھیں کھول کر ایک نظر جھریوں بھرے، دھنڈلی آنکھوں والے مہربان چہرے کو تک لیتا تھا اور ممنونیت کی یہ نظر اس کے ڈوبتے دل کو سنبھالا دے رہی تھی۔

اور اب وہ تن من سے زخمی چڑے کی تیمارداری میں مصروف تھا۔ آخر کار ایک دن چڑے کے زخم بھر گئے۔ کئی دنوں بعد وہ پھر چڑے کے ساتھ اپنے کمپاؤندھ میں نمودار ہوا۔ زرد اور جھکا ہوا سا۔ چڑے کو اس نے فرش پر رکھ دیا تاکہ وہ اڑ کر اپنے گھونسلے تک جاسکے جہاں شاخوں کے درمیان اس کے دونوں بچے بھی اڑتے اڑتے آگئے تھے۔

بچوں کو دیکھ کر اس کا افسر دہ دل ایک دم سے کھل اٹھا۔ چڑا تھا اور بے سہارا نہیں۔ اب اس کے دو بچے تھے، تند رست تو انہا اور مضبوط بازوؤں والے۔ اس نے چڑے کو اٹھا کر ایک شاخ پر رکھ دیا۔ اس نے پر پھر پھر اکراڑنے کی کوشش کی اور زمین پر آ رہا۔ اس کے زخم تو اچھے ہو گئے تھے لیکن بازو قوت پرواز سے محروم ہو چکے تھے۔ چڑے نے زمین پر گر کر بے بسی سے چوں چوں کی اور اپنی نئی منی آنکھوں سے اوپر چھپھاتے بچوں کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو۔ آؤ بچو، مجھے سہارا دو! ایک بچہ چھپھا کر اوپر کی شاخ پر پھدک گیا۔ دوسرے نے چوں چوں کی اور بازو پھیلا کر دور بادام کے اوپر نیچے درخت کی جھومتی شاخ پر جا بیٹھا۔ چڑے نے فریادی انداز میں اپنی پوری چونچ کھول کر اوپر دیکھا اور زور زور سے چوں چوں کی۔ دوسرے بچے نے بھی اڑان لی اور اڑ کر اسی طرف چلا گیا جدھر پہلا گیا تھا۔

یہ دیکھ کر جانے کیا ہوا کہ اس نے اپنے تمام جوڑوں میں شدید درد کی ٹیس اٹھتی محسوس کی۔ درد کی شدت سے وہ سر سے پاؤں تک کاپ اٹھا۔ اس کا جسم پسینے سے تر ہو گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے کمپاؤند سے کمرے تک کافاصلہ طے کیا اور دیواروں کو پکڑ پکڑ کر اپنے بستر کی طرف جانا چاہا لیکن نہ جانے کیوں اس کے جسم نے گھسنے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ مسلسل کراہ رہا تھا اور قوت پرواز سے محروم چڑا بھی چوں چوں کیے جا رہا تھا۔ آم کے درخت میں مکڑی کے جالے سے لٹکا ہوا وہ خزان رسیدہ خشک پتا بھی بڑی بے بسی سے جیسے خلامیں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ گرم ہوا کے چھیڑوں سے نیبل پر رکھے ہوئے اس کے بیٹوں کے تازہ آئے ہوئے خطوط بکھر کر دور جا پڑے تھے۔ وہ انہیں پکڑنے کے لیے پوری قوت سے جھپٹا لیکن لڑکھڑا کر گر پڑا۔



## ڈوبتی ہوئی پہچان

شہر کا یہ علاقہ جو کسی زمانے میں شہر سے دور ایک متمول بستی ہوا کرتا تھا اب بڑھتی ہوئی آبادی کے ریلے نے اسے اپنے وسط میں لے لیا تھا۔ فلیٹوں کے اس جنگل میں دکٹورین طرز کے اس واحد مکان کی بوڑھی مالکہ کو ٹھیکیداروں نے فروخت کرنے کے لیے بڑی بڑی پیشکشیں کی تھیں مگر وہ کسی طرح تیار نہ ہوئی۔ یہ طویل و عریض مکان کئی حصوں میں کرائے پر اٹھا ہوا تھا جس کی پچھلی منزل کے اگلے حصے میں لان کے سامنے والے کمرے میں وہ اپنی بلی کے ساتھ رہتی تھی۔ گھر کا پچھلا حصہ جو اس کے کمرے سے متصل تھا اسے اس نے خاتون کے خاندان کو دے دیا تھا۔ اور وہی اُس کی اور اس کی بلی کی خدمت گزاری کا ذریعہ تھی۔ بستر سے لگی گھنٹی کا سوچج دونوں کے درمیان مواصلات کا ذریعہ تھا اور گھنٹی کی آواز پر آ کر خبر لینا خاتون کے فرانچ میں شامل تھا۔

ورانڈے سے نیچے لان میں یوکیریا کے درخت پگوڑا کی طرح کھڑے تھے اور درمیان میں اشوك کا گھنہ گھنیرا درخت دور تک اپنی جڑیں زمین میں جمائے مضبوطی سے کھڑا تھا۔ بہت پہلے اس لان کی دیکھ بھال مالی کے ساتھ مل کر وہ خود کیا کرتی تھیں۔ پیزی، زینیا، اور ہولی ہوپ کے علاوہ گرمیوں میں بیلے اور سردیوں میں گیندے اور گلاب سے ان کا لان گلرنگ اور معطر رہا کرتا تھا۔ گھاس بھی پابندی سے کٹتی تھی اور سیرابی بھی ہوتی تھی۔ کھڑکیوں پر سوکھی ہوئی بلیوں بیل اور آئی وی کی گھنی بیلیں کبھی پھواوں پتوں سے بھری رہتیں جن میں شکر خورے گھونسلے بناتے تھے۔ یہ تب کی بات ہے جب بڑی بی کے ہاتھوں میں دم تھا لیکن گھنیا کی تکلیف نے اب آہستہ آہستہ انہیں اتنا معدود کر دیا تھا کہ چھڑی کا سہارا لے کر وہ گرمیوں میں ہوا اور سردیوں میں دھوپ کے لیے ورانڈے میں پڑی اپنی راکنگ چیز پر آبیٹھتیں۔

اس وقت ان کی بلی بھی حسب دستور ان کے پیروں کے پاس بیٹھی ہوتی۔ دونوں دیر تک دیران لان کو تکتی رہتیں جہاں پہلے گھاس اگتی تھی اور اب خاک اُڑ رہی تھی۔ اس معمول کو گزرے بھی ایک عرصہ ہو گیا۔ اب تو مرض کی شدت نے دونوں کو کمرے ہی تک محدود کر دیا تھا۔ زندگی جیسے گھستی جا رہی تھی۔ باہر کی دنیا سے کٹ کر موسم کے بدلنے کا اندازہ صرف جسم کا بیرونی میٹر کر لیتا تھا۔ ہڈیوں پر جھولتی کھال کے اندر درد کا احساس جگانے والی ہوا سرما کی آمد کی خبر دیتی تھی تو جس اور گھٹن کے احساس نے اے سی کا سوچج آن کرنے کی ضرورت گرمی کا پتہ دیتی۔ کھڑکی کے پاس اشوك کے پتوں پر ٹپ ٹپ کی آواز سے وہ برسات کا تصور کر لیتی تھیں۔ گھر سے باہر باغ کے دھلے پتوں کی ہری بھری چچماہٹ اور آسمان پر کالے بادلوں کے پس منظر میں اڑتے سفید، بگلوں کی قطاریں دیکھنے کی نہ بصارت تھی اور نہ ٹانگوں میں اتنا دم۔ سامنے ٹیبل پر رکھے ٹیلی و وزن کے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبانے کی بہت نہ پڑتی کہ اس میں نظر آنے والے کردار اور ان کے رویے اس کے لیے اجنبی اور اکتادینے والے ہوتے۔ پھر دھنڈ لائی آنکھوں پر زور دینے سے آنکھیں بھی ڈکھنے لگ جاتیں۔ محرم اور دسمبر ایک

پوی تھی جس کی رفاقت میں زندگی کی آخری منزلیں طے ہو رہی تھیں۔ دونوں کی آنکھوں کے پیچھے، دھنڈ سے پرے ان کے مشترک ماضی کی طویل کہانی تھی۔

یہ کہانی دراصل پوی کی ماں لوی سے شروع ہوتی تھی جس کے ساتھ مینا نے جواب مزیا اور تھیں زندگی کا سفر شروع کیا تھا۔ لوی بھی بڑی بانگلی اور طرح دار بلی تھی۔ اصل نسل کی سیامی، جو دیکھتا لوٹ پوٹ ہو جاتا۔ امی کی بڑی لاڈلی تھی اور کیوں نہ ہوتی کیونکہ وہ ان کی دیرینہ آرزو تھی۔ پاپا اسے مشرق بعید کے کسی ملک کے دورے سے واپسی پر اپنے ساتھ لائے تھے اور بڑے چاؤ سے اسے امی کی سالگرہ پر سر پرانے کے طور پر پیش کیا تھا۔ امی یہ نایاب تھنہ پا کر پھولے نہ سمائی تھیں اور بڑے فخر سے ہر ایک کو دکھایا تھا۔

می اور پاپا کے بقول وہ خود اس وقت چار ماہ دس دن کی گول گپا سی ایرانی بلی لگتی تھی۔ می اور پاپا کی لاڈلی پہلی پہلی اولاد تھی۔ امی جب اسے گود میں لیتیں تو لوی بھی اپنے پنجے ان کے زانوں پر رکھ کر برابر میں خرخرا یا کرتی۔ شروع شروع میں، اور اور بوانے بلی اور بچی کے اس قرب پر بڑی ہائے توبہ مچائی لیکن لوی بچی سے کچھ اس طرح مانوس ہوئی کہ جیسے اس کی نگرائی بن گئی۔ بچی روئی نہیں کہ اس کے کان کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے وہ خود اس کے پاس جا پہنچتی۔ اپنی خرخراتی ہوئی میاں میاں سے اسے تسلی دیتی۔ رات کو اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑ کر بچی کے کمرے کے دروازے پر سویا کرتی کیونکہ اندر جانے کی اسے اجازت نہ تھی۔ اکیلی بچی سوتے میں کہیں چونک کر روئی نہیں کہ لوی میاں میاں کر کے گھر کے کسی نہ کسی فرد کو اپنے بیجوں سے ہلکے ہلکے نوچ کر کمرے کی طرف دوڑتی۔ گویا چلنے کا اشارہ کر رہی ہوا اور جب تک کوئی بچی کی خبر نہ لے اس کی یہ حرکت جاری رہتی۔

اس کے باوجود دادی اور بُو اہر روز لوی کو کہیں پھنکوادینے کے منصوبے بناتی رہتیں کیونکہ بچی بلی کو اپنے ہاتھوں سے نوچتی کھوٹتی اور کھلوانے کی طرح اس سے کھیلتی تھی۔ کبھی دم کھینچتی کبھی کان۔

”کل کلاں کو اگر بلی جھپٹ لے تو یعنے کے دینے پڑ جائیں۔ جانور ذات کا بھلا کیا

بھروسہ؟“

بوا بڑ بڑا تیس اور دادی اس کی ہاں میں ہاں ملاتیں۔ کبھی بلی کے روئیں سے ڈپھیر یا جیسے موزی مرض کے ہونے کے اندیشے سے گالوں پر تھپٹر مار کر اللہ سے پناہ مانگی جاتی۔

ان اندیشوں سے پاپا اور ممی کو قائل کرنے کی مسلسل کوششیں ہو ہی رہی تھیں کہ ان ہی دنوں گھر میں کچھ رشتہ دار مہمان مع بچوں کے قیام پذیر ہوئے۔ ہر آدمی بچی کو گود میں لے لیے پھر نے لگا۔ بچی کے سونے جانے کا سارا معمول ہی بگڑ گیا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد بچی کی نیند کم ہوئی۔ کچھ وزن بھی کم محسوس ہوا۔ اور جب ڈاکٹر کو دکھایا گیا تو اس نے بچی کا وقت پر سونا ضروری قرار دیتے ہوئے اس کی ضد اور رونے دھونے کی پروانہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اور بچی سونے کی بجائے گود میں کھلنے پر مصرا۔ گھروالوں کے لیے اس مشورے پر عمل کرنا مشکل ہو گیا۔

ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے بچی کو بے بی گوٹ میں ڈال دیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ ماں نے گھروالوں کو بچی کی صحت اور زندگی کا واسطہ دے کر ”دل کڑا کرنے“ کی ہدایت دی۔ بچی نے وہ چیخ و پکار مچائی کہ گھر سر پر اٹھا لیا۔ لیکن کمرے کے باہر تمام افراد کا لیجہ تھا میں سنتے رہے۔ چال ملڈ اسپیشلٹ کا بھی یہی مشورہ تھا کہ بچی کے رونے دھونے کی پروانہ کی جائے۔ وہ خود تھک کر سو جائے گی۔ لیکن اس صورت حال کو برداشت کرنا بڑے دل گردے کا کام تھا، کمرے کے باہر ماں باپ سمیت سارا گھر دم بخود بچی کے چپ ہونے کا انتظار کرتا رہتا۔

لیکن لوسی..... اسے چین کہاں۔ وہ کبھی بچی کے کوٹ (Cot) پر اپنے الگے دونوں پنجے رکھ کر گویا اسے دلا سے دے۔ کبھی ماں، دادی اور بوا کے قدموں میں لوٹ کر میا داں

میاں کی رٹ لگائے۔ دوڑ دوڑ کر بچی کے پاس جائے اور وہاں سے پلت کر گھر والوں کی طرف آئے جیسے التجا کر رہی ہو کہ بچی کو گود میں لے لو۔ لیکن سب دل تھامے گھڑی پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ بیس پچیس منٹ صبر کریں۔ ادھر بچی کی چینیں کلیجہ شق کیے دے رہی تھیں۔ لوئی بھی سب کے پیروں میں سر رگڑ رگڑ کر خوشامد کرنے کے بعد ماہیوں ہو کر بچی کے پاس چلی گئی۔ بچی جو پہلے ہی تھک کر پُور ہو چکی تھی لوئی کے قرب کو غنیمت جان کر خاموش ہو گئی اور اس کی آنکھیں آپ ہی آپ بند ہو گئیں۔ اور پھر یہ تماشا بھی باری باری سے گھر کے سب لوگوں نے دیکھا کہ بلی بچی کے برابر یہی ہے اور بچی بلی پر اپنے بازو پھیلائے سور ہی ہے۔ ننھی ننھی بچکیوں کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔

دادی اور بوانے اپنے آنسو پوچھے۔ ممی پاپا نے سکھ کا سانس لیا۔ دوراتوں کے اس ڈرامے کے بعد تیسری رات سے بچی واقعی خود بخود اپنے وقت پر سونے کی عادی ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد سے بو اور دادی دونوں ہی لوئی کی گرویدہ ہو گئیں۔ اس کے بعد لوئی بو کے اون کے گولے کو کھیل کھیل کر الجھادیتی اور دادی اماں کی ایزی چیز پر بیٹھ کر اپنی صفائی کرتے ہوئے اپنے بالوں کو بکھیر دیتی تب بھی بو اور دادی کو اس پر پیار ہی آتا۔ اگر کوئی ٹوکتا تو کہتیں:

”اے بی، سنہیں کہ مجنوں کو لیلیٰ کا کتا بھی پیارا ہوتا ہے۔“

اپنے حسابوں وہ بڑا منطقی جواب دیتیں۔ اکثر لوئی اور مینا کو کھیلتے محبت پاش نظروں سے دیکھتیں۔ حد تھی کہ لوئی کے لیے بھی کرن لگی ایک چھوٹی سی پٹاپٹی گوٹ کی مخلیں رضائی سی گئی اور اس کے بستر کو مینا کے کمرے میں لگانے کی بھی اجازت مل گئی۔ تب سے مینا کی نگہبانی کے فرائض با قاعدہ طور پر لوئی کو سونپ دیے گئے۔

گھر میں مینا کے بعد منا بھیا اور منی بہن بھی آئے لیکن لوئی صرف اور صرف مینا کی ہو رہی۔ اس عرصے میں لوئی نے بھی کئی بار بچے دیے لیکن دادی کے بقول سب کے سب

بدنسلے اور چھپھورے ہوتے۔ اس سلسلے میں لوئی کے ذوقِ انتخاب پر سارے بزرگوں کو اعتراض تھا۔ بچے ذرا بڑے ہوئے نہیں کہ انہیں قصائی کی دکان پر چھڑروا دیا جاتا۔

سب کو فکر تھی کہ کوئی بچہ ماں کی طرح ہو تو رکھ لیا جائے کیونکہ لوئی کی عمر بھی بڑھتی جا رہی تھی اور مینا بھی اب اسکول جانے لگی تھی۔ اور ایک بُلی بہر حال گھر کی ضرورت تھی کیونکہ اس کے بغیر بچے لندورے سے لگتے تھے۔ اور یوں بھی دادی کے بقول ”بُلی کتنے بچوں کی بلا میں اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔“ اسکول کے ساتھ ہی معمول اور پابندیوں کا جال بہت دھیرے دھیرے مینا کو اپنے حلقے میں لیتا جا رہا تھا۔ جیسا کہ ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے۔ گھر کی ناز برداریوں کے ساتھ اسکول کے اوقات کار، کلاس میں بیٹھنے کا جبر، اجنبی، مہربان اور نامہربان چہروں سے آشنا تھی۔ انہیں گوارا کرنا اور آخر کار اسے زندگی کا لازمہ سمجھ کر مصالحت کر لینا اور پھر ان سب کو انجوائے کرنا۔ یہ وہ تربیت تھی جس نے زندگی بُر کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ یوں معمولات کے ساتھ وقت آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ چھوٹی موٹی ہلچل کے ساتھ زندگی ایک ڈگر پر چلتی جا رہی تھی کہ ایک دن اسکول سے واپسی پر اسے گھر میں کچھ ہلچل سی نظر آئی۔ ہر شخص پر جوش ہو رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ لوئی نے دونچے دیے ہیں جن میں سے ایک ہو بہو ماں پر گیا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔

وہ دوڑ کر اسٹور میں گئی جہاں لوئی کا زچہ خانہ تھا۔ وہاں ٹوکری میں Peach اور چاکلیٹ کلر کا پیارا سا بلونگڑا اور دوسرے ننھے کلوٹے بلونگڑے کے ساتھ گذڈ مڈ ہو رہا تھا۔ اس نے بلونگڑوں کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دادی، بوا اور امی نے ایک ساتھ چیخ ماری۔

”اے ہے کیا کر رہی ہو کاٹ کھائے گی۔“

حقیقت بھی یہ تھی کہ بُلی بچہ پیدا کر کے اتنی خونخوار ہو جاتی ہے کہ بچوں کے چھونے کا ارادہ کرتے ہی غرا کر جھپٹتی ہے۔ مگر یہ دلکھ کر سب حیرت زدہ رہ گئے کہ بلونگڑا مینا کے ہاتھوں میں تھا اور لوئی اس کا ہاتھ چاٹ رہی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ فخر و منوعیت سے منہ اٹھا کر اسے

دیکھ بھی رہی تھی۔ یہ گویا لوئی اور اس کے درمیان ایک معاہدہ تھا کہ یہ بچہ اس کا ہے اور آنکھیں کھلتے ہی وہ اس کی گود میں سما گیا۔

اور پھر یہ تو معمول ہو گیا کہ جب تک وہ اسکول میں ہوتی بچہ لوئی کے پاس ہوتا۔ وہ خود بھی اسکول میں بلونگزے کے لیے کھوئی کھوئی سی رہتی۔ بے قرار اسکول سے واپس آتی تو گیٹ پر اسے اپنا منتظر پاتی۔ بس کی آواز سنتے ہی دوڑ کر باہر آ جاتا اور اس کی نانگوں سے لپٹ کر اس کے پاؤں پر رگڑ رگڑ کر پیار کا مطالبہ کرتا۔ جب تک اسکول کی یونیفارم تبدیل کرنے کے لیے ڈانٹ نہیں پڑتی، دونوں لاڑ پیار کرتی رہتیں۔ اسکول میں ہونے والی ہر بات پوسی کی بتائی جاتی (اس کا نام پوسی اس نے خود رکھا تھا)۔ پوسی بھی بڑی توجہ اور چاہت سے نہ صرف سب کچھ سنتی بلکہ اپنی خُرُخُر اور میاڈ میاڈ سے تائید بھی کرتی۔ کم از کم مینا یہی صحیح تھی کہ پوسی اس کی باتیں صحیح اور جواب بھی دیتی ہے۔

عمر کے ساتھ ساتھ دونوں کی دوستی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جہاں جاتی پوسی اس کی گود میں ہوتی۔ گاڑی میں ہوتی تو گود میں بیٹھی گردن اٹھائے محو نظارہ ہوتی۔

بچوں کے ساتھ لان میں کھلتے ہوئے وہ دوڑ لگا کر قریب ہی کسی درخت کی جڑ پر بیٹھ جاتی لیکن اس کی نظریں مینا کے دوڑتے بھاگتے پیروں پر ہی مرکوز رہتیں۔ کبھی وہ خود کھیل کے موڑ میں اچھل کر گھاس پر ڈالے اور جھاڑیوں پر سے تسلیاں پکڑنے کی ناکام کوشش کرتی اور کبھی کسی چڑیا کی تاک میں بیٹھتی اور عین اس وقت جب وہ چڑیا کو دبو چنا چاہتی وہ اڑ جاتی اور وہ کھیانی ہو کر کسی کھمبے کی بجائے اس درخت کے تنے کو نوچتی جس پر وہ شریر چڑیا بیٹھ کر چچھا رہی تھی۔ بچے اس کی اس حرکت کا مزا لیتے۔ کھیل کے دوران اگر مینا کی کسی سے اڑائی ہو جاتی تو پوسی اپنی تمام امن پسندی کو بالائے طاق رکھ کر مخالف کی طرف پھنکا رکھ جائی اور اتنی خونخوار لگتی کہ بچے ڈر کر بھاگ جاتے۔ وہ خود بھی پوسی کی پوری حفاظت کرتی اور بھائی بہنوں کو ہمیشہ دھمکاتی کہ خبردار جو میری پوسی کو مارا۔

ایک دن اسکول میں ٹیچر نے اسے My Pet پر مضمون لکھنے کو دیا تو اس نے اپنی پوسی کی وہ قصیدہ خوانی کی کہ ٹیچر نے جذبات و تخيیل سے بھر پورا اس کا مضمون بے حد پسند کیا اور اس کے خاص خاص جملے پڑھ کر سب کو سنائے۔

”میری پالتوبیلی پوسی کا رنگ چاکلیٹ ملک شیک جیسا ہے جس پر چاکلیٹ کا اسپرے بھی کیا ہوا ہے۔“

”اس کی آنکھیں دادی اماں کے ٹاپس کی طرح اندھیرے میں چمکتی ہیں اور ہری، نیلی اور بھی براون ہو جاتی ہیں۔“

”اس کی موٹی سی دم امی کے کوٹ کے کار کے فر کی طرح نرم اور گدگدی سی ہے۔“، ”غیرہ وغیرہ۔“

ٹیچر نے اس کے مدد و تخيیل اور تشبیہات کو خوب سراہا لیکن اس کے باوجود پوسی کو اپنے ساتھ اسکول لانے کی اجازت پھر بھی نہ دی اور اس کی دیرینہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔

لوسی تو جیسے اپنا بلونگز اس کے حوالے کر کے بے نیاز ہو چکی تھی۔ اب اس کا کھانا پینا، رہنا سہنا، سب بینا ہی کے ساتھ تھا۔ دونوں ساتھ کھانا شروع کرتیں۔ کیا مجال کہ اس کے نوالہ اٹھائے بغیر پوسی اپنے کھانے کو سونگھ بھی لے۔ کھانے کی میز کے قریب ہی کونے میں پوسی کے لیے food Cat کے مخصوص برتن میں ڈال دیا جاتا۔ دونوں کھانا ختم کر کے ساتھ ہی کمرے میں جاتیں اور پوسی اس کے پیچے پیچے پھرا کرتی۔ وہ بیٹھی ہوتی تو گود میں خرخرا کرتی۔ پوسی کے گلے میں دادی اماں نے مجمل کا جو پٹہ لگایا تھا اس میں شہرے گھنگھرو بھی ٹانک دیے تھے جس کی مترنم چھن چھن سے اس کے وجود کا پتہ لگتا تھا۔ خصوصاً جب وہ ہوم ورک کرنے بیٹھتی تو خوشی سے کبھی وہ میز پر اس کی کاپیوں کو اپنے پنجوں سے ہلکے ہلکے چھیڑتی، کبھی میز کے کونے پر بیٹھی ہی بیٹھی اس کے ہاتھوں پر نجے مارتی، کبھی نیچے اتر کر اس کے پیروں سے اٹھا کر میاں کرتی تو گھنگھرو کی چھن چھن اسے بہت اچھی لگتی۔ اور وہ اسے پیار سے اٹھا کر اپنی

گود میں بٹھا لیتی۔ اور اس دن کی تمام باتیں، اسکوں سے لے کر گھر تک کی تمام باتیں۔ تمام شکوئے پوسی کے گوش گزار کرتی اور پوسی کبھی بلکل سی میاؤں سے کبھی گردن ہلا کر اس کی تائید یا تردید کر دیتی۔ ایک دوسرے کی مزاج شناسی نے دونوں کو زبان شناس بھی بنادیا تھا۔ جو لوگ اسے ناپسند تھے لوئی بھی ان سے نفرت کرتی اور جنہیں وہ چاہتی پوسی بھی ان سے پیار کرتی۔

سکون و عافیت کے ماہ و سال تیزی سے گزر رہے تھے۔ زندگی پیروں تنے چلنے والے اسکلیپیٹ کی طرح قدم اٹھائے بغیر آپ ہی آپ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر دور پچھے چھوٹا جا رہا تھا۔ کتنے ہی موسم آئے اور بہار کے بادلوں کی طرح نیلے آسمان پر تیرتے ہوئے گزر گئے۔ ہر موسم اس کے رگ و پے میں ایک سننا ہٹ چھوڑ جاتا۔ پھولوں سے لدے درخت اور پودوں پر شہد کی مکھیوں کی بھجنہا ہیں، کالی پیلی تلیوں کے پروں کی پھر پھرا ہیں، ہری گھاس پر بے آواز اچھلتے ٹذوں کی آوازیں سرگوشی کرتی محسوس ہوتیں اور وہ خود تلی کی طرح ان کے ساتھ اڑتی ہوئی محسوس کرتی۔ گزرتے موسموں کی مدھم آوازیں جیسے اس کے وجود میں جذب ہوتی جا رہی تھیں اور وہ دیرینک اپنے آپ کو ڈھونڈتی رہتی۔ ان ہی دنوں پوسی نے کن کئے بلے سے دوستی کر لی تھی اور لان پر اس کے ساتھ بے فکری سے اٹھکھی دیاں کرتی نظر آتی۔

اور جب وہ اسکلیپیٹ سے اتری تو پلیٹ فارم بدلتا چکا تھا۔ اور وہ دوسرے پلیٹ فارم سے زندگی کا سفر شروع کر رہی تھی۔ بہت سارا وقت اور بہت سارے اچھے برے لوگ پچھے چھوٹ گئے تھے۔ البتہ پوسی بھی اس کے ساتھ نئی جگہ آگئی تھی۔ دونوں ہی نئی جگہ پر حیران حیران تھیں۔ پوسی کی آنکھوں میں طہرانیت کے بجائے وحشت تھی لیکن دونوں نے حسب دستور ایک دوسرے سے مکالمے کے بعد زبانِ خامشی میں ایک دوسرے کو تسلیاں دیں اور حالات سے سمجھوتہ کر لیا اور نئے ماحول میں اپنے لیے جگہ بنانے میں کامیابی حاصل کر لی۔

پوسی کی بھی سجائی ٹوکری جس میں اس کا بستر تھا جہیز کی آرائشی چیزوں میں اس کے

ساتھ آئی تھی اسے بیڈروم کی کھڑکی کے پاس ایک خوبصورت میز پر سجادا گیا تھا تاکہ وہ آزادی کے ساتھ باہر آ جاسکے۔ جبکہ مینا کے لیے آزادی ختم ہو چکی تھی۔ تسلی کے پرٹوٹ چکے تھے اور وہ اڑنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ پوسی کا کن کٹا بلا بھی اس سے پچھڑ چکا تھا اور من در کا سلگھا سن ویران ہو چکا تھا۔ دونوں کو اجنبی ماحول میں دل لگانا تھا۔ پوسی نے تو جلد ہی ”تونیس“ اور سبھی، پر عمل کرتے ہوئے لان سے پرے جنگل میں گھومتے بھورے بلے کی پکار پر آخر کار لبیک کہا اور اس نے بھی جواب مینا سے مسزیا در بن چکی تھی اپنے نئے شریک زندگی کو قبول کر لیا تھا۔ ملکیت اور تحفظ کے احساس نے اسے سہارا دیا تھا اور پھر متا کی آفاقت نے اس عبید کو مشتمل کیا۔ یوں نئے گھر کو اس نے اپنے لیے سازگار بنالیا۔

اور پوسی بھورے سے دل لگا کر بچے پیدا کرنے اور پالنے میں منہمک ہو گئی۔ بچے آنکھیں کھولتے ہی تربیت کے مرحلے میں آ جاتے۔ جب دیکھو فرش پر لیٹی اپنی ڈم ہلاتی رہتی اور بلونگزے اس کی ڈم کو پکڑنے کے لیے تاک لگا کر اچھلتے کو دتے۔ کبھی ڈم پرٹوٹ پڑتے اور جوش میں آ کر نخے دانتوں سے کانے کی کوشش کرتے۔ ایسے موقعوں پر کبھی تو پوسی مصنوعی غصے سے غرا کر ڈانٹتی، کبھی انہیں پیار سے بازوؤں میں دبوچ کر چانے لگتی۔ کبھی لان میں لے جا کر شکار کھلینا اور دشمنوں سے بچنے کی گھاتیں سکھاتی۔

ان بچوں کا سب سے بڑا دشمن بھورا تھا جسے بچوں میں پوسی کا انہما ک ایک آنکھ نہ بھاتا۔ وہ انہیں ختم کرنے کے درپے رہتا کہ یہ اس کی جبلت تھی جو شیر سے اسے درٹے میں ملی تھی۔ اکثر بچے اس کی رقبابت کی بھینٹ چڑھ جاتے۔ جو بچتے وہ لوگوں میں بٹ جاتے۔ یوں پوسی فارغ ہو کر کچھ عرصہ غم و غصے میں گزارتی اور پھر بھورے کی پکار پر اس کے کان کھڑے ہونے لگ جاتے اور تھوڑی سی ردود کد کے بعد تعلقات پھر استوار ہو جاتے۔

پوسی کی محبت اور رفاقت کا یہ انداز اسے ہمیشہ زہر لگتا۔ لیکن اب اسے یہ سب سوچنے کا موقع ہی نہ ملا کیونکہ خود اس کے یہاں بچوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا اور ہر دو

سال بعد خاور، طیب اور طاہر پیدا ہوتے چلے گئے۔ اور وہ خود بھی پوی کی طرح بچوں کی پروش میں الجھ گئی۔ پھر تو تعلیم و تربیت کے بکھیرے بڑھتے ہی چلے گئے۔ ایک مرحلہ ختم ہوتا تو دوسرا مشکل تر مرحلہ شروع ہو جاتا۔ اور یوں وقت کو ایسے پر لگئے کہ پلٹ کر اپنے ہی نقوشِ پا دیکھنے کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ یہ انداز بھی اسے پوی ہی نے سکھایا تھا۔ پوی اب بھی جب وہ سوئٹر بن رہی ہوتی یا سلامی کر رہی ہوتی یا بچوں کے ساتھی وی دیکھ رہی ہوتی تو وہ اس کی گود میں آ جاتی اور وہ کام روک کر اس کے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرتی۔ پوی سراٹھا کر اپنے مخصوص انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی اور یوں لگتا جیسے ماضی کسی فلم کی طرح ریوانہ ہو کر دونوں کی چشم تصور میں در آتا۔ دونوں چپ چاپ ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنے مشترک ماضی کے خواب دیکھ رہی ہوتیں کہ یکا یک کسی بچے کا کوئی مطالبہ، یا ورکی گاڑی کا ہارن یا کچھ اور اسے جھنجھوڑ کر جگا دیتا۔ بکھرے خوابوں کی کمک بچے کی نیکر ڈھونڈنے یا کچن میں کھانا نکلوانے کی مصروفیات میں معدوم ہو جاتی۔ ایسی کتنی ہی ہو کیں، کتنے ہی خواب دل کے کپیوٹر میں فیڈ ہوتے رہتے۔

چھوٹے بڑے کتنے ہی دکھ سکھ وہ ابھی تک پوی سے کہتی چلی آ رہی تھی کیونکہ یہ اس کی عادت تھی۔ ایسی باتیں جو وہ کسی اور سے نہیں کہے سکتی تھی وہ باتیں پوی بڑی دلجمی سے سنتی ہی نہیں سمجھتی بھی تھی۔ دل کی آنکھوں اور کانوں کی زبان سے گفتگو کا سلسہ دونوں کی مجبوری تھی۔ یوں بھی یا ورکو دل کی آواز پر کان دھرنے کی نہ فرصت تھی، نہ عادت۔ اس کے ثابت شیڈوں میں اس کی کہیں گنجائش ہی نہیں تھی۔ وہ دو اور دوچار کی دنیا کا آدمی تین اور پانچ کے ذکر سے الجھتا تھا۔ کمانے اور خرچ کرنے کی منصوبہ بندی میں اسے مہارت تھی اور ہر شے پر مکمل اختیار رکھنے پر اسے فخر تھا۔ گھر اس کے فلفے پر چل رہا تھا۔ اپنی خاموش اور فرمانبردار بیوی کی انتظامی صلاحیت کی طرف سے اسے کوئی تردید نہ تھا۔ بچے صحت مند اور تربیت یافتہ تھے۔ وہ خود صرف اس کے حسن کی جزئیات کو سمجھنے اور برتنے کا قائل تھا اور اس سے آگے وہ

وقت کا زیان سمجھتا تھا۔ بیڈروم سے باہر دونوں کی ملاقات اور بات چیت باقاعدہ کبھی ہوتی ہی نہ تھی۔ ناشتے کی میز پر چند جملوں کے تبادلے سے گھر کے ضروری امور نمائادیے جاتے تھے۔ یا اور کو اطمینان تھا کہ بیوی کی ڈور اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس خوش رنگ پینگ کو اس نے اونچا اڑا کر ڈھیل پر چھوڑ دیا تھا اور اپنے کنٹرول پر اسے پورا اعتماد تھا۔

لیکن ادھر کچھ عرصے سے وہ اپنے آپ کو مجبور اور بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے پچے ایک ایک کر کے اس سے علیحدہ کیے جانے کے بعد اقامتی اسکولوں میں داخل کیے جا رہے تھے۔ اس نے یاور سے پہلی بار احتجاج کیا جس کا جواب یاور نے اپنے مخصوص پنے تلے انداز میں دیا تھا۔

”اپنے بچوں کے لیے میرے عزم کتنے بلند ہیں یہ تم سوچ بھی نہیں سکتیں۔ ان کا عروج میرا خواب ہے۔“

لیکن عروج کا پہلا ہی مرحلہ اتنا کٹھن ہو گا اس کا اب سے اندازہ نہیں تھا۔ اور بعد میں آنے والے سخت مقامات کا اس وقت کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ پچھے جب تک اسکول میں تھے وہ آتے جاتے رہتے تھے۔ چھٹیاں نہ ہوں تو دونوں میاں بیوی اتوار کے دن جا کر مل آتے تھے۔ جدائی کا یہ دورانیہ ان سے ملنے کی تیاریوں میں گزر جاتا۔ ان کے کپڑے، ان کے شوق کے کھانے اور کھلنے کی چیزوں کی خریداری اور تیاری میں انتظار کی گھریاں آسانی سے گزر جاتیں۔ ان سے ملنے کے خوش آئند تصور سے جو سرور اسے حاصل ہوتا وہ بڑا قیمتی ہوتا۔

بچوں کے آتے ہی سارا گھر ان کی زندگی بخش آوازوں سے گوئخنے لگتا۔ وہی دھما چوکڑی، بال کی دھم دھم، تیز تیز بولنا، لڑنا جھگڑنا، طرح طرح کی آوازیں نکالنا۔ ان کے چلے جانے کے بعد بے کراں سنائے میں بھی ان کی بازگشت سنائی دیتی۔ اور اسے خود اپنا وجود ڈھنڈا رہا لگتا۔ یوں جیسے اس کی روح بھی بچوں کے ساتھ ہی چلی گئی ہو۔ سنائے اور تنہائی کے ان لمحوں میں پوسی گویا اسے تسلی دینے اس کی گود میں آئی بیٹھتی اور وہ دیر تک اس سے بچوں کی

ہپا تیس کے زندہ رہنے کا احساس دلاتی۔ ہر بار یہی معمول ہوتا اور ماہ و سال گزرتے چلے جاتے۔

لان میں لگے یوکیرا کے پودوں کی طرح اس کے بچوں نے بھی اب اونچے لمبے قد نکالے تھے۔ اپنے چمکتے دمکتے چہرے لیے یہ جب گھر آتے تو جیسے ہر طرف چراغاں سا ہو جاتا۔ ایک جشن سا براپا ہو جاتا اور وہ اپنے وجود کے اندر سے طاقت، مسرت اور طہانیت کا چشمہ سا پھوٹتے محسوس کرتی۔ بچوں کے کھانے، ان کے دوستوں کی مدارتوں کے اہتمام میں وہ خود اڑی اڑی پھرتی۔ لیکن بہار کے جھونکے کی طرح یہ وقت بھی گزرا جاتا اور وہ اگلا موڑ جدائی کا، سر پر آن کھڑا ہوتا۔ یوں بھی گزرتی تو غنیمت تھا لیکن آمد و رفت کا سلسلہ بھی طویل نہ رہا۔

اور پھر ایسے ہی ایک ہنگام جشن کے بعد وہ مرگ آور لمحابت شروع ہوئے جب اسے بتایا گیا کہ بچوں کو اب اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر جانا ہے۔ بچے بیرون ملک کی بڑی یونیورسٹیوں میں داخلے سے بے حد خوش تھے۔ یوں بھی دور دور رہ کر ان میں جو بیگانہ وشی پیدا ہو گئی تھی وہ اس کے دل میں ایک مستقل سکب بن کر رہ گئی تھی۔ لیکن جب دونوں بڑے لڑکے خوشی خوشی رخصت ہوئے تو اس کے دل میں ٹیکیں سی اٹھنے لگیں۔ چھوٹے بیٹے طیب کو سینے سے چمنا کر دل کی تسلی کا کچھ سامان ہوا ہی تھا کہ اگلے سال سے اس نے بھی اپنی تعلیم ختم کر کے باہر جانے کی خدمت کی اور یوں باپ بیٹے نے اس کے احتجاج کی پرواکے بغیر اسے بھی باہر کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ دلوادیا۔ ابے محسوس ہوا جیسے اس کے جیتے جی اس کے جسم سے بوٹاں ایک ایک کر کے الگ کر دی گئی ہوں اور وہ محض ایک ڈھانچے کی صورت دونوں ہاتھ پھیلائے ممتا کی بھیک مانگ رہی ہو۔

اس وقت اس نے پہلی بار اس فاصلے کو محسوس کیا جسے یا اور کی بیگانگی نے اس کے اندر رزہ کی طرح بھر دیا تھا۔ اس نے سرانجام کر دیکھا تو وہ بہت اوپر آ خرمی سیڑھی پر کھڑا نظر

آیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار آنسوؤں کی نمی تھی۔ چہرے پر تھکن اور اداسی اور بالوں میں جھلکتی سفیدی اسے دور سے نظر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کاش اس کڑے وقت وہ اس کے دکھ کا سا جھی ہوتا تو بازوؤں کے حلقتے شاید فاصلوں کو مٹا دیتے۔ لیکن وہ اس سے بہت دور کھڑا تھا۔ وہ اپنی اس اجنبی سوچ پر چونک پڑی۔ اس دن یہ سارے احساسات کتنے حیران کن تھے۔ وہ اتنی شکستہ دل ہو چکی تھی جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔

ہمیشہ کی طرح اسے اپنا ڈپریشن دور کرنے کے لیے کسی مصروفیت کی ضرورت تھی۔ تب ہی اس نے پوسی کو اپنے پیروں پر سرگزگز کر گود میں لینے کی التجا کرتے محسوس کیا۔ پوسی کو شاید معلوم تھا کہ وہ جن احساسات سے گزر رہی ہے اس میں اسے تسلی دینے اور بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے پوسی کو اٹھا کر اپنے سینے سے چمنا لیا اور اپنے اندر اٹھنے والے صرص کے جھونکوں کا زہر پوسی کے کان میں انڈیلنے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ پوسی بڑے دکھ سے منہ اٹھائے گویا اس جوئے خون کو دیکھ رہی تھی جس سے اس کا آنچل بھیگتا جا رہا تھا۔ ایسے موقعوں پر وہ بڑی آہنگ سے کھڑکی کے پٹ اپنے پنجوں سے کھول دیتی تھی اور یوں باہر سے آنے والے ہوا کے جھونکے اس کے آنچل اور چہرے کو تھپک کر خشک کر دیتے۔

اسی وقت کھڑکی پر چڑھی مارنگ گلوری کی گھنی بیل میں سیماں سی بجائے پھلوں کے کٹورے میں لمبی چونچ ڈال کر رس چونے والے شکر خورے یا آسمان پر دوڑتے بادلوں کے پرے، یا کوئی کوک یا درختوں پر پھند کتی چڑیوں کی سرگوشی پھوپھوں اسے ایک دم سے ماضی کی طرف کھینچ لے جاتی۔ وہ اور پوسی دونوں اپنے بچپن، جوانی اور اپنے بچھڑنے والے بچوں کے قصے لے بیٹھتیں۔ دونوں کو اپنے بچوں کی ایک ایک ادا، ہر واقعہ، بھوی بھالی شراری میں، پیدا ہونے سے بچھڑنے تک کے تمام واقعات یاد تھے کیونکہ یہ کیسٹ نہ جانے کتنی بار ری وائسند ہو ہو کر ری پلے ہوتے رہے تھے۔

لڑکوں کے رخصت ہوتے ہی سارے کام اور تمام مصروفیات جیسے ختم ہو گئی تھیں۔ اب صرف فون کالز کا انتظار اور ای میل کی مصروفیت رہ گئی تھی۔ صبح سے شام تک فلکر میں صرف ہو جاتے کہ اس وقت وہاں دن کا کیا بجا ہو گا۔ کون لڑکا گھر میں ہو گا، کون باہر ہو گا۔ کون کمپیوٹر پر ای میل وصول کرنے یا بھیجنے میں مصروف ہو گا۔ یہ سلسلہ بھی رفتہ رفتہ کم ہو گیا اور فون کالز صرف روپوں کی تزییں اور وصولی کی اطلاع کے لیے مخصوص ہو گئیں۔ یوں مختصر دورانیہ کے لیے ان کی آمد کا سلسلہ بھی باری باری سے جاری تھا۔ ہر بار وہ اس سے دور ہوتے ہوئے محسوس ہوتے۔ ویسے بھی شروع ہی سے اقامتی اسکولوں میں رہتے ہوئے ان میں بیگانہ و شی پیدا ہو گئی تھی۔ بیردن ملک رہ کر وہ شاید اپنے مااضی سے رفتہ رفتہ دور ہو گئے اور صرف ایک لاتعلق ساتھ رہ گیا تھا۔

ہر بار زیادہ باوقار اور زیادہ خوبصورت لگنے والے اس کے اپنے بچے جن کی صورتوں اور عادتوں میں اس کی اپنی شخصیت کی چھاپ تھی۔ اس کے اپنے وجود کے حصے اب اسے کتنے اجنبی لگتے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سے کیا بات کی جائے۔ چند سرسری اور سطحی سے جملوں کے تبادلوں سے کچھ بھی تو نہیں ہوتا۔ بس ان کے لمس کا حظ ہی اسے نصیب ہوتا۔ بڑی سرد مہری سے یہ لوگ رخصت ہوتے۔ سامان کی ٹرالی دھکیلتے وہ پھائک کے اندر جاتے اور وہ باہر اپنے پیاروں کو رخصت کرنے والوں کے سوگوار ہجوم میں کھڑی انہیں حد نظر تک دیکھا کرتی لیکن وہ پلٹ کر ایک بار بھی اس پر نظر ڈالنے کی زحمت گوارانہ کرتے۔

کتنے موسم آئے اور گزر گئے۔ درختوں نے اتنی بار چوپ لے بدلتے کہ باغ میں درختوں پر کھدے ہوئے ان کے نام بھی اترنے والی چھال کے ساتھ اترتے چلے گئے۔ مارنگ گلوری کے اندر کتنے ہی چونگڑے نکلے اور اڑے۔ کتنی ہی بار بادل منڈلائے اور برس پر پھر گزر گئے۔ ہوا میں کتنی ہی بار بہار کا پیغام لا میں مگر وہ ایک شاخ نہالِ غم۔ آئینے پر چھلتی نظر بھی اس پر گزرتی خرابی کی خبر دیتی رہتی تھی لیکن یا ور کے بالوں میں جنمی برف اسے

سب سے زیادہ وقت کی سلینی اور انقلاب زمانہ کی ستم گری کا احساس دلانے لگی تھی۔

طاہر میڈیکل کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے امریکہ کا ایک معروف ڈاکٹر بن چکا تھا۔ خاور نے کمپیوٹر انجینئرنگ کے شعبے میں اپنے کمالات سے لوگوں کو حیران کر دیا تھا۔ طیب جاپان میں کار کی ری کنڈیشنگ کا پلانت لگا کر انٹریشنل برس میں بن چکا تھا۔ ان میں کسی کے پاس اب فون کرنے کی فرصت نہ تھی۔ Top Lap کمپیوٹر اب ہمہ وقت ان کے ساتھ ہوتا لیکن وہ خود اپنے کمپیوٹر پر کوئی ای میل تلاش ہی کرتی رہ جاتی۔ سب کی مقامی بیویاں تھیں اور غیر ملکی نبچے۔ اب وہ سب خود کفیل تھے۔ کبھی ویک اینڈر ز پر مختصری ای میل کے ذریعے خیریت معلوم کر لی جاتی۔ پھر ایک طول خاموشی اور جان لیواناٹا۔

وہ دیر تک گم سمیٹھی ان ڈوبتی ابھرتی ہوئی بچوں کی آوازوں کا شمار کیا کرتی جو گھر کے درودیوار میں رچی ہوئی تھیں۔ آوازوں کے اس شور میں اس کے گھلتے وجود کو پوسی کی التجا میں تھام لیتی تھیں۔ وہ اپنی میاؤں میاؤں سے گود میں لے کر باتیں کرنے پر اصرار کرتی اور پھر دونوں زبان اور بے زبانی میں باتیں کیے جاتیں۔

”پوسی ہم تو اونچے پہاڑ سے ٹوٹنے والے پتھر ہیں۔ گرتے جانا ہمارا مقدار ہے۔“  
وہ پوسی سے کہتی۔ ”یہاں تک کہ ایک دن اس گھری کھائی میں جا گریں گے جہاں سے پھر کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ اسی طرح ٹوٹتے، پھوتتے، گھتے، رگڑتے چلے جانا ہے۔“  
اور پوسی ہلکی سی میاؤں سے گویا اس کی تائید کرتی۔

اور یاور..... وہ بر گد کا تناور درخت اپنی شاخوں سے نکلنے والی جھاؤں پر اپنی مضبوطی کا انحصار کیے اعتماد سے کھڑا تھا۔ حالانکہ ان جھاؤں کے زمین سے مل کر اپنا علیحدہ روپ دھارتے ہی جڑیں کھوکھلی ہونی شروع ہو گئی تھیں۔ اب اُس سے بڑے تین مضبوط، ہرے بھرے درخت سراٹھائے کھڑے تھے۔ بالآخر ایک دن بڑی خاموشی سے زمین پر آ رہا۔ اس دن نہ کوئی طوفان آیا نہ تیز ہوا میں چلیں۔ وہ حیرت زده رہ گئی کہ یہ چنان کی طرح ٹھووس

نظر آنے والا شخص تو گلیشور کی طرح پکھل گیا..... اڑانے والے کے ہاتھ سے پینگ کی ڈور چھوٹ چکلی تھی اور وہ ڈمگ کاتی، غوطے کھاتی اس پرانے مکان کی پرلی طرف کاٹھ کباز میں الجھی پڑی تھی۔ کتنی بار اوس اور بارشوں سے ڈھلتے، دھوپ میں جلتے اب وہ بدرنگ کا غذ کا چیتھرا ہو چکی تھی اور فتحیوں سے چمٹی پھر پھر اتی رہتی۔

وہ..... مسز مینا یا ور اب بھی زندہ ہے کیونکہ پوسی بھی زندہ تھی۔ اس کا آخری اور کمزور سا سہارا۔ یہ دیرینہ رفاقت شاید کچھ دن اور بھی قائم رہتی اگر وہ حادثہ جانکاہ نہ ہوتا۔ ان دنوں سامنے والے پڑوی کو کتے پالنے کا شوق ہوا تھا۔ پوسی بے چاری اپنی ضرورت سے ہر شام گیٹ سے باہر نکل جاتی۔ کتنے کے خوف سے اس نے اپنا وقت بھی تبدیل کر لیا تھا۔ صبح جب وہ بند ہوتا تو وہ پھائک کے نیچے سے چپکے سے نکل جاتی۔ اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ شام کو بارش کا سلسلہ رکا تو وہ باہر نکلی، ہی تھی کہ بھونکتے غراتے کتنے نے پیچھا کیا۔ پوسی بھاگتی ہوئی گیٹ میں گھس رہی تھی کہ کتنے نے چھپلی ٹانگ دبوچ لی۔ اس کی چینیں سن کر، وہ چھڑی اور دیوار کے سہارے باہر جانے کی کوشش کر رہی تھی کہ چھڑی بارش سے بھیگے وراندے کے فرش پر چھلی اور وہ ایک چیخ کے ساتھ سیرھی پر گرمی۔ اتنے میں پوسی بھی کسی طرح اپنی ٹانگ چھڑا کر اندر آ چکی تھی۔ دونوں گھستی ہوئی کمرے کی طرف چلیں۔ اس نے تمام طاقت جمع کر کے بیڈ سے لگی گھنٹی کا سونج دبادیا۔

خاتون بے وقت کی پکار سن کر بھاگتی ہوئی آئی۔ اس وقت تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہفتواں بعد جب وہ ٹوٹی پھولی اور زیادہ معذوری ہو کر اسپتال سے واپس گھر آئی تو پوسی کی حالت دیکھ کر اس کی رہی سبی قوت بھی جواب دے گئی۔ پوسی ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر حسب عادت سرگزٹ نے اور پیار کرنے کے پُر جوش اظہار کی قوت بھی اس میں نہ رہی تھی۔ وہ خود بھی درد سے نڈھاں تھی اور پوسی کو گود میں اٹھا لینے کے لیے اسے اپنی تمام قوت مجتمع کرنی پڑی تھی۔ اپنے سوچے ہوئے گھنٹوں کو ہلانا بھی اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ پوسی کا

زخم ہر تیرے دن ڈرینگ کے باوجود گہرا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی تکلیف کو بے بسی سے محسوس کرنے پر مجبور تھیں۔ پوی کو تو مخصوص انداز سے تچھپھانے اور سرہلانے سے آرام آ جاتا تھا لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ خود پسینے پسینے ہو جاتی تھی۔

ہر قسم کے علاج کے باوجود پوی کا زخم مندل ہونے میں نہیں آ رہا تھا، ایک دن خاتون یہ خبر لے کر آئیں کہ ڈاکٹر نے اس کے مرض کو لا علاج قرار دیا ہے۔ اس کی عمر اس قابل نہیں کہ ٹانگ کائی جائے۔ اس کو تکلیف سے نجات دلانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اسے زہر کا انجکشن لگا دیا جائے۔ خاتون نے بہت سنہج سنہج کر یہ خبر سنائی تھی لیکن اس کے باوجود مسزیاور کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے اس ظالمانہ فیصلے پر سخت احتجاج کیا۔ لیکن پوی اب اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اس کی کراہی بھی ایک بلکی سی غراہٹ میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ کھانا پینا چھوڑے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے۔ کبھی کبھی ڈر اپر سے دودھ اس کے منہ میں پکا دیا جاتا تو تکلیف کی شدت سے بے قرار ہو جاتی۔ جب وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی، اسے تھپکیاں دیتی تو وہ اپنی نیم وال آنکھوں سے اسے دیکھتی جیسے التجا کر رہی ہو کہ کچھ کرو۔ میری تکلیف دور کر دو۔ لیکن ڈاکٹر نے اس کو دکھوں سے نجات دلانے کا جونسخ تجویز کیا تھا اس کے خیال سے کلیجہ منہ کو آتا تھا۔

پوی کی حالت اب دیکھی نہیں جاتی تھی۔ زخم کی ٹیسوس سے جیسے اس کا سارا جسم تحریر ہرہا تھا۔ اس کو یوں تڑپتے دیکھنا بھی اب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ خاتون اسے پوی کی اذیت کا احساس دلا کر ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنے کی تلقین کرتی۔ آخر کار اس نے پوی کو اذیت سے نجات دلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کے ساتھ اس کا اپنادل اندر رہی اندر ڈوبنے لگا۔ وہ بے سدھ ہو کر بستر پر گر گئی۔ پوی کے ساتھ برسوں کی رفاقت یوں ختم ہو گی یہ اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے پوی کی ٹوکری کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اسے سینے سے لگا کر ایسی باتیں شروع کر دیں جیسی بچپن میں اس سے کیا کرتی تھی۔ دونوں درد سے بے حال

تحیس اور پوی کو تو جواب دینے کا بھی ہوش نہ تھا۔ کوئی ہلکنی سی دکھ بھری میا وں تک نہیں۔

باہر سے آنے والی ہر آہٹ اسے موت کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل جیسے اپنے بو سیدہ پنجرے کو توڑ کر باہر آ جانا چاہتا تھا۔ اس نے بہ وقت رندھے ہوئے گلے سے صرف اتنا کہا:


”پوی میری جان، مجھے معاف کرنا۔ کیا کروں کہ تمہاری اذیت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی!“

اپنا کا نپتا ہوا ہاتھ اس نے پوی کے سر پر پھیرا اور اس کے دونوں تھر تھراتے پنجوں کو ہاتھ میں لے کر سہلاتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور پوی کے کافی رنگ جسم کو گلیا کر رہے تھے۔

کھلے دروازے سے خاتون داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے جانوروں کا وہ ڈاکٹر تھا جو برسوں سے پوی کا معانج رہا تھا۔ پر آج ڈاکٹر کے ہاتھ میں کسی سرخ سیال سے بھری سرخ تھی۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر اس نے پوی کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ اس کا چہرہ اپنے چہرے سے ملا لیا اور پوی کی ڈوبتی ہوئی سائیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ اسے نہیں معلوم کہ ڈاکٹر نے کب پوی کے جسم میں سوئی داخل کی اور نکالی۔ اس نے جھک کر پوی کے کان میں کہا۔

”تم خوش قسمت ہو کہ دکھوں سے نجات پا گئیں۔ میرے لیے ایسی کوئی دوانیہیں۔“

اس کے ساتھ ہی پوی کا موت سے لڑتا ہوا جسم اس کے بازوؤں میں آ رہا۔



## گلدان

مارچ کا مہینہ یوں بھی براخوبصورت اور رومانی ہوتا ہے اور میرے لیے تو یہ اور بھی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ میرے ماضی کی تمام تلخ اور شیریں یادیں اسی موسم بہار سے وابستہ ہیں۔ اس میں کے شروع ہوتے ہی تمام بھولی بسری یادیں ہر طرف سے آ کر خود بخود حافظتے ہیں۔ گنگنا نے لگتی ہیں اور ذہن میں بالچل سی مچا جاتی ہیں۔ یوں جیسے بہار کی گرم دوپہر میں ہمارے باغ میں شہد کی مکھیوں کی بھنبھنا ہٹ اور پھولوں کی خوشبو میں جل کر ایک خواب گیس ماحول پیدا کر دیتی تھیں۔ مارچ کے آخر میں جب درخت اپنا نیا چمکیلا جوڑا پہنتے ہیں اور پھولوں سے ڈھک جاتے ہیں تو میں نیچے گرے ہوئے ان خزاں رسیدہ بھورے پتوں کا نوحہ ہمیشہ نظر انداز کر جاتی ہوں جنہیں آم اور جامن کے بور کی خوشبو سے لدمی ہوئی ہوا میں زمین پر ادھر سے ادھر لڑھکاتی پھرتی ہیں۔ بھلا ایسے موسم میں جب فضا چڑیوں کی چیکار اور شہد کی

مکھیوں کے لئے سے گونج رہی ہو، پھولوں کی مٹھنڈی آگ سے گلشن دکر رہا ہو ہر طرف خوش رنگ تسلیوں کے خوبصورت پُر فضا میں رقص کر رہے ہوں، بہار کے نیلے شفاف آسمان پر بادل کے آوارہ ملکڑے تیر رہے ہوں تو خزاں رسیدہ پتوں کا نوحہ الٰم سننے کی فرصت کوئی کہاں سے لائے؟ یہ سمجھنے کی کوشش کون کرے کہ یہ خزاں رسیدہ پتے جو بہار کی ہوا سے یوں زمین پر بے سہارا لڑھک رہے ہیں کبھی درختوں کی زینت تھے اور گلشن کی تزئین و آرائش میں ان کا بھی با تھا تھا۔ ان خزاں رسیدہ پتوں کا مسیحا کوئی نہیں جو اپنی طبعی موت سے پہلے ہی تیز و تنہ ہوا اُس کے جھکلوں سے گر جائیں اور یوں پامال ہوں اور یوں روندے جائیں جیسے کہ وہ درخت میں لگے ہی نہ تھے، جیسے کہ ان کے رنگ و روپ سے کبھی کسی کوفائدہ پہنچا ہی نہ ہو۔

یہی بہار کے دن تھے اور مارچ کا خوشنگوار مہینہ جب میں نے پہلی بار راحت کو دیکھا۔ گل عباس کی گھنی جھاڑیوں میں زرد پروں پر چمکیلی سیاہ دھاریوں والی چڑیا کو میں بڑے انہماک سے پلتے اور چھپھاتے دیکھ رہی تھی۔ میرے دونوں پاؤں حوض میں تھے اور میرے پیچھے سرخ گلاب ہوا سے جھوم رہے تھے۔ سامنے سفید گلاب کی جھاڑیاں پھولوں سے لدی ہوئی تھیں اور اس پر تسلیاں لہرالہرا کر اڑ رہی تھیں۔ اوپر نیلے آسمان پر سفید بادل کے ملکڑے آنکھ پھولی کھیل رہے تھے۔ امرود اور لیموں کے پھولوں کی باس نشہ ساطاری کر رہی تھی۔ تب ہی مجھے احساس ہوا تھا کہ کوئی مجھے دیکھے جا رہا ہے۔ ان دونوں میرے احساسات کتنے تیز ہو گئے تھے۔ اور جب میں نے پلٹ کر پھانک کی طرف دیکھا تو راحت کی نظروں کو اپنی طرف مرکوز پایا۔ اس دیوانہ کر دینے والی فضانے، ہوا کی عطر بیزی نے، پھولوں اور تسلیوں کے رنگوں نے، چڑیوں اور شہد کی مکھیوں کے سازنے جانے کوں ساحر کر دیا تھا کہ میں اسے دیکھتی ہی چلی گئی۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس دم میرے دل نے تھوڑی دیر کے لیے جیسے دھڑکنا بند کر دیا ہو۔ شاید یہ فضان کا طسم تھا کہ وہ بھی مبہوت کھڑا تھا۔ وہ لمحہ کتنا حسین تھا جب ہماری

نظرول کا تصادم زندگی بھر کا سنجوگ بن گیا۔ زندگی کے اس نئے موڑ پر میرا دل انتظار کی اذیت ناک لذت اور زنگا ہیں دیدار کی صرفت سے آشنا ہوئیں۔ خزاں کے سوکھے زرد پتے تیز و تنہ ہواں کے تپھیرے کھاتے جانے کہاں گم ہو گئے۔ ان کے نوحہ الٰم کی بازگشت سر بزر فضاؤں میں معدوم ہو گئی۔ میں نے راحت کا زندگی کی حرارت سے بھر پور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پایا اور زندگی کی بہار اور خزاں اس کے وجود میں سما گئی۔

وہ بھی بہار ہی کے دن تھے جب درخت اپنا پرانا لباس اتار کر نیا اور چمکیلا سبز لباس پہن رہے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف درخت سرخ و سفید اور فالسی پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ اس وقت بہار کا سارا حسن میری گود میں سمٹ آیا تھا۔ جہاں نئی زندگی کا چاند مسکرا رہا تھا۔ زندگی کے اس مسرور کن احساس کو آگ اور خون کی وہ آندھیاں بھی ملیا میٹ نہ کر سکیں جو وطن عزیز کی تقسیم کے ساتھ ہی پورے ملک کو جیسے بھرم کر دینے پر ٹل گئی تھیں۔ بہار نے اس بار نیا روپ دکھایا۔ درختوں کی شاخوں پر لگے ہوئے ان تمام پھولوں، پھولوں اور پتوں کو زبردستی شاخوں سے نوچ کر فضا میں اچھال دیا اور وہ ہوا کے تپھیزوں سے بے حال ہو کر مختلف سمتوں میں بکھر گئے۔ یہ بھی بہار ہی کا ایک روپ تھا جس میں خشک اور بے رنگ پتوں کے ساتھ سر بزر پتے، نوشگفتہ پھول اور تروتازہ پھل سب وقت سے پہلے ہی بکھر کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔

اور پھر یوں ہوا کہ ہم جو چمن کی تزمین و آرائش میں برابر کے شریک تھے۔ شاخ بریدہ کی مانند سوکھنے لگے۔ بہار کی زندگی بخش ہوا ہمارے لیے باد سوم بن گئی۔ ہم ان چند سوکھے تنکوں سے بھی محروم ہو گئے جن کی مدد سے ہم کسی گمنام شاخ کے کسی بے نام سے گوٹے میں اپنا آشیانہ تعمیر کر سکتے۔ ہم وہ پرندے بن گئے جو ناساز گار موسوم سے بچنے کے لیے سال بھر شمال سے جنوب اور مغرب سے مشرق کی سمت پرواز کرتے رہتے ہیں۔ چمن میں بہار آگئی تھی لیکن اس موسم گل میں میرا کوئی حق نہ تھا، تب ہم نے اپنی وہ دلہیز چھوڑ دی جو ہمارے آباد

اجداد نے پستوں میں بنائی تھی۔ جہاں کی مٹی ہماری زندگی کا جزو تھی اور جہاں کی مٹی میں دفن ہو کر مٹ جانا ہماری آرزو تھی۔ لیکن ہم نے اس آرزو کا گلا گھونٹ دیا۔ سب کو چھوڑ کر میں نے منے کو گود میں لیا اور راحت کا ہاتھ پکڑ کر خون سے لت پت گلیوں کو پار کر گئی۔ جاتے جاتے پلت کر میں نے اس گلی کو دیکھا جس کے چپے چپے سے بے شمار تلخ یادیں وابستہ ہیں۔

اور جب ہم مشرق کی جانب اپنی نئی منزل کو چلے تو ہمارے پاس یقین اور اعتماد کی دولت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہم ایک نئے چمن کو اپنے خون پینے سے سنبھنے کا ارمان لے کر روانہ ہوئے جہاں ہم اپنی مرضی کے مطابق کسی ایسی شاخ پر آشیانہ بنائیں گے جس کے تنکے تیز و تندر طوفانوں میں بھی منتشر نہ ہوں گے۔ ہم اپنے چمن کو پھولوں سے بھر دیں گے اور وہ تمام راستے بند کر دیں گے جن سے ہو کر خزان کے تباہ کن جھونکے داخل ہو سکتے ہوں۔

ہمارا اپنا گھر..... ہاں میں اُسے گھر ہی کہوں گی کیونکہ گھر کی ماڈی آسائیں نہ سہی روحانی سکون ضرور تھا۔ یہ مال گاڑی کے بے کارڈ بے تھے جن میں ریلوے کے ادنی و اعلیٰ ملازم میں کو آباد کر دیا گیا تھا۔ ریلوے یارڈ کے ایک طرف پھیلے ہوئے بے شمار ناکارہ ڈبوں میں ایک دنیا آباد تھی۔ ان ہی میں ایک ڈبہ ہمارا یعنی راحت صاحب انجینئر کا بھی تھا۔ ریلوے یارڈ کے ایک طرف آم اور کٹھل کے گھنے باغوں کے درمیان جا بجا کیلے اور بانس کے جھنڈ تھے۔ ان کے درمیان بانس کی چٹائیوں اور پٹ سن کی خشک شاخوں سے بنی ہوئی جھونپڑیوں میں ہمارے نئے ہم وطن آباد تھے۔ دوسری طرف دور دور تک دھان کے کھیت تھے جو پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دن بھر چھیرے مجھلیاں پکڑتے رہتے۔ ریلوے یارڈ بلندی پر تھا جس کے چاروں طرف کا منظر بڑا خوبصورت تھا۔ سبزہ ہی سبزہ، ہر یا لی ہی ہر یا لی۔

وہ صبح کا وقت تھا جب ہم نے اپنے نئے گھر میں قدم رکھا اور دریتک ماحول کے خسن میں گم رہے۔ پانی میں کھلے کنوں کی سرخ اور بند گلیوں کے سرے مندر کے کلس کی طرح کھڑے تھے۔ کہیں کھلے کنوں صبح کی صاحبت میں اضافہ کر رہے تھے، دو پہر ہوتے ہوتے یہ

پھر سے منہ بند کلیوں کی شکل اختیار کر کے چوڑے پتوں کے درمیان چھپ جاتے۔ حدِ نظر تک دھان اور پٹ سن کے پودے پانی کی سطح پر لہراتے رہتے۔ ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی کشتیاں دور سے کالی چڑیوں کی طرح نظر آتیں۔ سامنے درختوں کے نیچے افسروں اور گلر کوں کو ایک ساتھ ایک جذبے سے کام کرتے دیکھ کر میں دور مستقبل میں گم ہو جاتی جب ان سب کی مشترکہ کوششوں سے ہمارا وطن سر بلند ہوگا۔ اس وقت کرشنا چورا کے سرخ پھولوں سے لدے ہوئے درخت مجھے موسم بہار کا احساس دلاتے۔ بہار جواب کبھی خزان کا روپ اختیار نہ کر سکے گی۔

راحت سارا دن شدید محنت کرنے کے بعد رات کو جب پسینے سے تر واپس آتا تو جو توں سمیت بستر میں پڑ جاتا۔ راتوں کو شدید جس اور لوہے کی تیقی چھت گرمی سے نذر حال کر دیتی۔ رات کو کسی وقت بارش ہو جاتی تو قدرے سکون ملتا اور گھپ اندر ہیری رات میں لوہے کی چھت پر بارش کا شور ہمارے لیے لوری کا کام دیتا۔ صبح ہوتے ہی سورج طلوع ہوتا اور ذرا سی دیر میں ہمارا ڈبہ پھر سے تپ جاتا۔ لیکن اس سورج میں زندگی گزارنے کے باوجود ہم پر امید تھے اور ملک کی تعمیر میں ملکن۔

صبح جب مرد اپنے کام پر چلے جاتے تو عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لے کر درختوں کے جنہد میں واقع مقامی آبادی میں چلی جاتیں۔ ہمارے پچھے ان کے بچوں کے ساتھ کھلینے لگ جاتے اور عورتیں آپس میں با تیں کرتیں۔ مچھلی اور کھل کی ماں وس بوہر طرف پھیلی ہوتی۔ چاول پک رہے ہوتے اور ہم ایک دوسرے کی زبان میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے۔ دلوں میں خلوص ہوتا زبان کی اجنبيت بھی اظہار مدعای میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ ٹوٹی چھوٹی زبان کے سہارے دلیں دلیں سے آنے والوں کے درمیان سماجی ارتباط بڑھتا گیا۔ زبان، معاشرت اور زمین کے رشتہوں کے فرق کے باوجود ہم سب ایک غیر محسوس بندھن میں بندھے ہوئے تھے۔ چمن چمن کے پھولوں کا ایک گلدستہ سا بن گیا تھا۔ ہر پھول کا رنگ الگ بوا الگ،

مگر مجموعی حسن دلفریب تھا۔ چمن کی آرائش میں کتنے پوے زمین کا اثر قبول کر لیتے ہیں اور ان کی جڑیں دور دور تک پھیل جاتی ہیں لیکن کتنے ہی پوے اجنبی آب و گل کا اثر قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ان کی جڑیں زمین میں دور دور تک نہیں پھیلتیں وہ گلوں کی محدود وسعتوں میں لہلہتاتے ہیں لیکن طوفانوں کا مقابلہ کرنے کی سکت ان میں نہیں ہوتی۔ مال گاڑی کے ڈبوں کے سہنی فرش پر جنم لینے والے کتنے ہی بچوں نے بنگال کی نرم، گیلی اور خنک مٹی میں ہمیشہ کے لیے چھپ جانے ہی میں عافیت سمجھی۔

قدرتی آفتوں اور صعوبتوں کو برداشت کرتے ہم نے برسوں گزار دیے۔ موسلا دھار بارش میں پیکتی ہوئی چھتوں سے کہیں اماں نہیں ملتی۔ یہ سلسلہ کئی کئی دن جاری رہتا اور ہم بھنے ہوئے چاول کھا کھا کر گزارا کرتے۔ بارش میں ایندھن کی گیلی لکڑیوں کے دھوئیں سے ہماری آنکھیں سونج جاتیں۔ اسی طرح دن کثتے رہے، بہاریں آئیں اور گئیں۔ آم اور کھل کے گھنے باغوں میں کوئی کوئی کسی فضا بور کی رسیلی خوشبو سے بوجھل ہوئی، کرشنائچورا پر بہاریں آئیں، پھول کھلے اور مر جھا گئے..... اس عرصے میں بے شمار عمارتیں زمین سے اُگ آئیں، سرکاری و فاتر اور رہائشی مکانات تعمیر ہوئے، لوگ مال گاڑیوں کے ڈبوں سے اٹھ اٹھ کر ان میں منتقل ہو رہے تھے اور ہمارے پڑوی ڈبے ویران ہوتے جا رہے تھے۔

مارچ کی ایسی ہی ایک سنہری دوپہر تھی جب میں حد نظر تک پھیلے ہوئے سبز کھیتوں اور دورندی میں تیرتی ہوئی کشتوں کے اڑتے ہوئے باد بانوں کو دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر بادلوں کے دل منڈلا رہے تھے۔ سرخ کنول سے بھرے تالاب میں تیرتی ہوئی سیاہ سفید بٹخوں کا ایک شور سا برپا تھا اور پانی کے گھڑے بھر بھر کر لے جانی والی نازک کمر اور لمبے سیاہ بالوں والی سانوں لڑکیاں بھی اسی منظر کا ایک حصہ معلوم ہوتی تھیں۔ میرا بیٹا اس وقت پانی کے کنارے گھاس پر اڑنے والی بھنپھریوں کی دم میں دھاگا گا باندھ کر انہیں ہوائی جہاز کی طرح اڑانے میں مصروف تھا۔

اسی وقت خلاف معمول میں نے دور سے راحت کو آتے دیکھا۔ ان دنوں اس کا تبادلہ بہت دور دار حکومت میں ہو گیا تھا اور اسے ایک جیپ بھی مل گئی تھی۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح میرا دل خوشیوں سے بھر گیا۔ اس نے آتے ہی یہ خبر سنائی کہ وہ جس منصوبے پر کام کر رہا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے اور اسے بھی ایک مکان مل گیا ہے۔ اس کی باتوں اور اس کے ہر ہر انداز میں آسودگی اور طہانیت تھی۔ یوں جیسے اس نے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے برسوں دھوپ میں تپ کر بارش اور پسینے میں نہا کر کتنی ہی راتیں گرمی، جس اور مچھروں کی نذر کر کے، دھوپ میں بھاگ بھاگ کر اپنارنگ سیاہ نہ کیا ہو بلکہ شاہجهہ کی طرح کسی محل کے جھروکے سے کھڑے ہو کرتا ج محل کو اپنے احکامات کے مطابق بننے دیکھا ہو، میری آنکھوں سے جانے کیوں آنسو پک پڑے، یہ آنسو جو شاید مسرت کے وہ شبہ قدرے تھے جو بیانوں میں بھٹکنے والے را ہی کی آنکھوں سے منزل پر پہنچ کر پک جاتے ہیں۔ ان آنسوؤں میں بیتے ہوئے دنوں کی اذیتیں تھیں، وہ محرومیاں تھیں جو راحت کی مصروفیتوں اور مشقتوں کے طفیل مجھے ملی تھیں۔

اور تب ہم نے اپنا مختصر سامان سمیٹا اور دنیا کے پہلے انسان کی طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے یوں چل پڑے جیسے ہم مال گاڑی کے ڈبے سے نہیں بلکہ آسمان سے اپنی جنت کی تخلیق کے لیے بھیجے گئے ہوں۔ ہمارا مانا کبھی کبھی ہم سے ہاتھ چھڑا کر پانی کے کنارے اُگی ہوئی جل کمبی کے نیلے پھول توڑنے لگ جاتا، پھر دوڑ کر ہمارے ساتھ ہو جاتا۔ کبھی وہ خوش رنگ تلیوں کے پیچھے بھاگتا اور ہم اس کے ہوا سے اڑتے ہوئے گھنگھریاں نہرے بالوں کو دیکھ کر خوش ہوتے۔

ہمارا اپنا گھر ایسی جگہ تھا جہاں ایک اور دنیا آباد تھی۔ ہر طرف خوبصورت عمارتیں بن گئی تھیں۔ دریاؤں، بزرہ زاروں اور لہلہتے کھیتوں کے درمیان دلیں دلیں سے آنے والے عزم و ہمت سے سرشار لوگوں نے دھرتی کی کایا پلٹ دی تھی۔ اپنے مکان کے لان میں

کھڑے ہو کر ہم نے چاروں طرف بکھرے ہوئے گھنے درختوں کو دیکھا۔ ہر طرف بزرہ ہی بزرہ اور اس کے نیچے بنگال کی سیاہ زرنیز مٹی۔ اب یہی مٹی ہماری تھی، یہی ہماری منزل تھی جسے حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اسی مٹی میں ہمارے اپنوں کے پسینے، چاند سے بچوں کے معصوم چہرے اور ان کی ماوں کے آنسو جذب ہو چکے تھے۔ مختلف جگہ سے لائے گئے پودوں نے اس مٹی میں اپنی جڑیں پھیلادی تھیں۔ تھمنی اور قلمی پودے ایک طرح سے لہلہوار ہے تھے۔ ہم بے حد خوش تھے کہ گنگا، پدم اور سُرما سے سیراب ہونے والی اس سرز میں پر بہار کے قدم ہمیشہ ہی جنمے رہتے تھے۔ کھل، جامن اور ناریل کے تناور درخت ہر طرف پاسبانوں کی طرح کھڑے تھے۔

تین کمروں کے کشاورہ مکان میں زندگی کا رنگ و روپ بالکل بدل گیا تھا، ضرورت کی تمام چیزیں مہیا تھیں اور عُسرت عشرت میں بدلتی جا رہی تھی۔ ہمارے پڑوی آسودہ حال لوگ تھے جو اکثر ہمارے گھر آتے اور ہم ان کے یہاں جا کر گھنٹوں با تیس کرتے۔ ہمارے پچے ان کے بچوں سے اور ان کی ماں میں ہم سے خوب گھل مل گئیں۔ لیکن راحت جانے کیوں کچھ بچھے بچھے سے رہتے۔ شاید اس لیے کہ اب وہ کئی بچوں کے باپ بن گئے تھے اور ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے اپنی اداہی کا سبب مجھے کبھی نہیں بتایا لیکن میں ان کی دلジョئی کرتی رہی۔

وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ ہمارے پچھے جوان اور ہم بوڑھے ہوتے جا رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی راحت کی تشویش کا سبب بھی مجھ پر کھلتا جا رہا تھا۔ بات اب صرف محسوس کرنے کی نہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھنے کی تھی۔ ہمارے گلشن کی شادابی اب دشمنوں کو کھلنے لگی تھی۔ دلیں دلیں سے ٹھکر اکرن کا لے جانے والوں نے اپنی محنت و مشقت سے جو مثالی گلشن تعمیر کیا تھا، صیاد اس کی گھات میں تھا۔ ہم اپنے آشیانوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں گن تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارا مضبوط بندھن بڑے سے بڑے ہتھیار سے نہیں کٹ سکتا لیکن چمن کے

مایوں نے اجنبی سرزمینوں سے لا کر لگائے جانے والے پودوں کی آبیاری ضروری نہیں سمجھی اور ساری توجہ ان پودوں کی آبیاری اور تراش خراش پر صرف کرنے لگے جن کی جزیں زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں پیوست تھیں۔ تاہم یہ اجنبی پودے صیاد کی گھاتوں اور مایوں کی بے انتہائی کے باوجود چمن کی زینت دو بالا کر رہے تھے، وہ اپنی جگہ جنمے کھڑے تھے اور اپنی نگہداشت خود کر رہے تھے۔ شاید ان کے اندر وہ قدرتی نہیں اور رس اب بھی موجود تھا جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے اور ان کے سہارے بڑھتے جا رہے تھے۔

ہم نے دیکھا کہ دشمنوں نے چمن کی فضاؤں میں زہر میلے جراثیم چھوڑ دیے ہیں جو درختوں کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ پھول اپنی چمک دمک سے محروم ہوتے جا رہے ہیں اور سچلوں کی مشہاس میں کڑواہٹ گھلتی جا رہی ہے۔ ان تبدیلیوں کے باوجود ہم مایوس نہیں تھے اور فضاؤں میں گھلنے والے زہر کو اپنے طور پر دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاید ہم اس کی زہرناکی سے پورے طور پر آگاہ نہ تھے۔ ہم اپنے پڑو سیوں کے گھر جاتے تو چمن میں چلنے والی اس نئی ہوا کے اثرات پر بحث کرتے اور پھر اپنے اپنے کام میں لگ جاتے۔ ہمیں اپنے خلوص نیت پر اعتماد تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا گلشن باد سوم کے جھونکے برداشت کرے گا اور اس کی شادابی پامال نہ ہوگی۔

لیکن حالات تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ فضا میں مسموم ہو رہی تھیں، برسوں پہلے قائم ہونے والے محبت اور یگانگت کے رشتہوں کو نفرت کے آرے سے کاٹا جا رہا تھا، گلشن کے تناور اور ہرے بھرے درختوں کی جڑوں میں محبت کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی جگہ نفرت کا تیزاب ڈالا جا رہا تھا۔ سائے اور آشیاں بندی کے خواہاں پرندے اب ان درختوں کے سائے سے گریزاں تھے جنہوں نے اپنی شادابی اور خوبصورتی سے ایک دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ انہی دنوں اکتوبر کے مہینے میں ایک بھی انک طوفان آیا۔ طوفان وہاں روزمرہ کا معمول تھے لیکن یہ طوفان اتنا خوفناک تھا جیسے گلشن کا تمام اٹاٹاہ اور امن و سکون لوٹ

لینے پر آمادہ ہو۔ شدید بارش اور خوفناک ہواں کی یلغار رات بھر جاری رہی، دھماکے ہوتے رہے، کھڑکیاں دروازے ٹوٹتے رہے اور گھر گرتے رہے۔

صبح ہم لان میں آئے تو میرے منہ سے چخ نکل گئی۔ طوفان نے بڑے بڑے تناور درختوں اور نئے نویلے پودوں کے ساتھ ایک سا سلوک کیا تھا۔ وہ سب سرگنوں تھے۔ ان کی جڑیں ٹوٹ چکی تھیں۔ میرے بنگلے کے دونوں طرف اونچے اونچے ناریل کے مضبوط درخت جو پاسبانوں کی طرح کھڑے رہتے تھے زمین بوس ہو چکے تھے اور ان کی جڑوں کی جگہ ایک بھی انک غار نظر آ رہا تھا۔ طوفان میں ہمارا سب کچھ غرق ہو چکا تھا۔ خلوص، محبت مردت اور سیکھائی کے رشتے بھی سیلا ب کی نذر ہو گئے تھے۔ نفرت کی ایسی شدید آگ بھڑک اٹھی تھی جسے پُر شور ندیاں اور آسمان سے ہونے والی شدید بارش بھی بجھانہ سکی۔ وہ فضائیں جو خوش المahan پرندوں کی چہکار سے گونجا کرتی تھیں مخالفانہ نعروں سے گونج رہی تھیں۔

اور اب سڑکوں پر سے ہر وقت نعرے لگاتے جلوس گزرا کرتے۔ ان نعروں سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ خواب جسے پورا کرنے کے لیے ہم نے اپنی دھرتی سے ناطہ توڑا تھا محض ایک خواب ہی تھا۔ ایک خوشگوار خواب جس کے لیے ہم نے اتنے عرصے تک سختیاں جھیلیں اور اب جب کہ گلشن پھولوں کی بآس سے مہک رہا تھا تو نفرت کے جھونکوں نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایسا لگتا، جیسے اب گلشن میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ جو لوگ کل تک سراپا نیاز اور ہمارے دکھ سکھ میں شریک تھے، آج ہمارے سامنے سے بھی گریزاں تھے۔ ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا تھا کہ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ تم بھوزرے ہو اور ہمارے گلشن کے پھولوں کا رس چونے یہاں آگئے ہو۔ بھوزروں کا بھی مقدر۔ جن کے پھولوں کا رس چونا سب نے دیکھا لیکن اس رس سے تیار ہونے والے شہد کو کسی جذبہ تشكیر کے بغیر ہضم کر لیے جانے پر کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر، سُن کر ہم صدموں سے نڈھال ہو رہے تھے۔

بہار کا موسم ایک بار پھر آیا۔ درختوں پر نئے چمکدار پتے نکل آئے۔ فضائیم کے بورا اور وولن چمپا کی خوبی سے معطر ہوا تھی۔ شہد کی مکھیوں کی بھجنخناہت اور کونلوں کی کوک سنائی دینے لگی۔ لیکن جانے کیوں مسرت اور سرشاری کے اس پر بہار موسم میں اب کے وہ دلآ ویزی نہیں تھی۔ اب شام کے وقت بزرہ زاروں میں نکلتے ہمیں خوف آتا تھا۔ راستے کے دکاندار ہمیں عجیب نظروں سے دیکھتے اور کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں کے بچے جو ہمارے گرد جمع ہو جایا کرتے تھے، اب ہمیں دیکھ کر چوکڑیاں بھرنا بھول جاتے۔ کسانوں کے چہرے اب اس مانوس چمک اور شفقت سے عاری ہوتے جو ہمارے بچوں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ہوتی تھی۔ اب وہ بانس کے پل پر سے گزرتے وقت ہمارے ڈرتے سنبھتے بچوں کو تشویش آمیز شفقت سے نہیں دیکھتے تھے۔ جیسے ہمارے بچوں کو سنبھل کر چلنے کی ہدایت دینا اب ان کا کام نہیں تھا۔ ندی کے کنارے کشتی کے انتظار میں ہم دیر تک کھڑے رہتے اور پہلے کی طرح بے شمار کشتمیاں اب ہمیں پارا ترنے کی پیشکش نہ کرتیں۔ وہ دور دور سے گزر جاتے جیسے شام کے گھرے اندر ہیرے میں ڈرتے اور گھبرا تے دیکھ کر انہیں لطف آتا تھا۔ سڑکوں پر ہر وقت ہولناک نعرے لگاتے، شور مچاتے جلوس گزرا کرتے۔ درود یوار پر اگتے ہوئے سبزے کے خنک رنگ پر سیاہ جھنڈیوں کی تاریکی مسلط ہوتی جا رہی تھی، کرشنا چورا کے پھولوں سے سرخ لہلہتا ہوئی زمین پر جیسے ہر طرف خون بکھرا ہوا نظر آتا۔

اتوار کی شام کو ہمارے ڈرائیکٹ روم میں عبدالجلیل چودھری، رووف محمد ار، رستم خاں اور روشن علی اب بھی جمع ہوتے لیکن اب با توں کا رنگ اور ہوتا۔ وہ جانے کن کن بے انصافیوں کا شکوہ کرتے، کن کن مظالم پر دانت پیتے اور ہمارے واسطے سے اپنے دکھوں کا ذمہ دار نہیں ٹھرا تے جنہوں نے اس سوئی دھرتی کی خاطر اپنی جوانی بخاور کر کے وقت سے پہلے بڑھاپے کی چادر اوڑھ لی تھی اور اس دھرتی کے حال پر اپنا ماضی قربان کر دیا تھا۔ جو اپنی دھرتی کے سینے سے اپنی جڑیں اکھاڑ کر فضا میں معلق ہو گئے تھے۔ تب ہی کہیں سے چمپا آ جاتی اور

اپنے لمبے لمبے سیاہ بالوں کو لہراتی، بڑی بڑی روشن اور معصوم آنکھوں کے ساتھ جھک کر میرے پاؤں چھوتی تو میں سب کچھ بھول کر اسے گلے لگا لیتی۔ وہ اپنی سانوں بانہیں میری گردن میں ڈال کر اپنے گال میرے گالوں سے ملا دیتی اور پھر وہ میری کری کے بازوؤں پر بیٹھی رہتی اور تب مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے چمپا کے چمپا کے بازوؤں اور اس کے گالوں کا مس اس دھرتی کا مس ہے۔ اس کے سیاہ بالوں سے اٹھنے والی ناریل کے تیل کی خوشبو اس دھرتی کی مٹی کی خوشبو ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ تب ہی گلی سے گزرتے ہوئے کسی جلوس کے دخراش اور دل شکن نعروں سے یہ طسم ٹوٹ جاتا اور ہم سب چونک اٹھتے، ایک دوسرے کی طرف چورنگا ہوں سے دیکھتے اور محفل بڑی بے کینی کے ساتھ بروخواست ہو جاتی۔

حالات روز بروز سنگین ہوتے جا رہے تھے لیکن ہمارے دوست عبدالجلیل چودھری کا اصرار تھا کہ منے اور چمپا کی شادی نہ سہی کم از کم منگنی ہی کر دی جائے تاکہ دو ہمسایوں کی پرانی دوستی رشتے میں بدل جائے۔ لیکن فضا پر چھاپا ہوا عجیب قسم کا پراسرار خوف ہمیں مضطرب کیے ہوئے تھا۔ جلوسوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ نعروں میں کچھ اور زہرنا کی پیدا ہو گئی تھی اور سیاہ جھنڈیاں دنیا کو جیسے تاریک کرتی چلی جا رہی تھیں۔ بچے شام کو ذرا دری کے لیے کھیلنے جاتے تو مشعل بردار جلوس ان کی ساری تفریح غارت کر دیتے۔

آخر کار منگنی کی تقریب کا اہتمام کر لیا گیا۔ چودھری صاحب حالات کے بہتر ہونے کا انتظار کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ہمارے تمام پڑوی اور دوست گھر میں جمع تھے۔ لیکن سب کھوئے ہوئے نظر آرہے تھے۔ ریڈ یو پرنگے گونج رہے تھے اور میں وقتی طور پر سب کچھ بھول کر اپنے منے کو دیکھ رہی تھی جس کا بچپن مال گاڑی کے ڈبوں میں گزرا تھا اور جسے ہم نے بے شمار خواہشات کا گاگھونٹ کر اعلیٰ تعلیم دلائی تھی۔

چمپا نے دلہنوں کا سرخ جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کا چہرہ تمثیا ہوا تھا۔ کمرے کا ماحول اتنا خوشگوار نہ تھا کہ میں اسے دیکھ کر یہ بھول گئی کہ باہر ہونا ک طوفان ہے جو بڑے بڑے تناور

درختوں کو اپنی جڑوں سے اکھاڑ کر اپنے ساتھ بہائے لیے چلا جا رہا ہے۔ لوگوں کے ہجوم صحرائی گولوں کی طرح گلیوں اور بازاروں میں پھر رہے تھے اور ہر چیز کو جھلتے چلے جا رہے ہیں، اچانک باہر بڑے زور کا شور بلند ہوا اور فضا ہولناک نعروں سے دہل اٹھی۔ چمپا سرک کر منے کے قریب ہو گئی۔ بچے جو ماحول سے بے نیاز خوش رنگ تیلیوں کی طرح پھدک رہے تھے، سہم کر ہمارے قریب آگئے۔ راحت نے بڑی تشویش سے اپنے دوستوں کی جانب دیکھا۔ وہ سب ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں مصروف تھے۔

ہمارے دروازے پر ایک شور برپا تھا۔ دروازے ڈنڈوں سے پینٹے جا رہے تھے۔

عبدالرؤف محمد ارباہر کی طرف لپکے۔ ہم سب سراسیمہ کھڑے ایک دوسرے کامنہ تک رہے تھے۔ میں نے لڑکھڑا کروہ میز پکڑ لی جس پر کھانے پینے کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ درمیان میں وہ گلدان عجیب سالگ رہا تھا جس میں چمپا اور منے نے رنگ رنگ کے پھول سجائے تھے اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ کھل گیا یا شاید ٹوٹ گیا۔ ہجوم ہمارے کپاونڈ کے پھولوں اور پودوں کو رومندا ہوا اندر گھس آیا اور پھر مجھے یاد نہیں کہ کیا ہوا۔

اور جب مجھے ہوش آیا تو محفل اجز چکلی تھی۔ جس کمرے میں کچھ دیر پہلے زندگی کی رونقیں بکھری ہوئی تھیں وہاں اب کچھ نہ تھا۔ فرش ایسا سرخ تھا جیسے کسی نے ہر طرف کرشا چورا کے پھول بکھیر دیے ہوں۔ بہار کی تیز ہواؤں میں دون چمپا اور گندھورا ج کی خوبیوں بھی پہلی ہوئی تھی لیکن شیشے کا وہ گلدان ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا جو مجھے زندگی سے زیادہ عزیز تھا اور جس میں ہم سب نے مل کر سرخ، زرد، اودے، نیلے اور سفید پھول بڑی محنت سے سجائے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری زندگی بھر کی محنت کا حاصل یہ گلدان ہی تو تھا جس کے بکھرے بکھرے ملکڑے اب کبھی یکجا نہ ہوں گے۔



## رات سے پہلے

شام کے چھنج چکے تھے اور ستمبر کی اس زرد شام کی تمام ادایاں جیسے اس کے  
کمرے میں سمٹ آئی تھیں۔ دھڑکتے دل اور سہی نگاہوں کے ساتھ وہ میز پر پیپرویٹ سے  
دبے اس ٹیلیگرام کو دیکھ رہی تھی جو کھڑکی سے آنے والی تیز ہوا سے پھر پھر اڑا رہا تھا اور جب بھی  
ہوا ساکت ہوتی اور کاغذ رکتا تو کاغذ پر چھپے ہوئے دو لفظ وہاں سے اچھل کر پوری شدت سے  
اس کی آنکھوں سے نکلا جاتے یوں جیسے کسی نے آہنی ہتھوڑا پوری طاقت سے اس کی آنکھوں پر  
ڈے مارا ہو۔

”کمنگ ٹونائٹ“ (Coming Tonight) دو معصوم سے بے ضر سے الفاظ  
تھے جنہوں نے اس کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جیسے انگاروں پر جمی ہوئی راکھ کوئی  
پھونک مار کر کراڑا دے۔

کمرے کے دروازے پر کھڑا بوز حا بابا اسے جیران نظروں سے دیکھ رہا تھا، پچھلے پندرہ سال سے وہ اس کے شب و روز کے معمولات کا امین تھا۔ پر آج تو اس نے اپنے اصولوں کی کئی خلاف ورزیاں کر دی تھیں۔ آج وہ پورے ایک گھنٹے کی تاخیر سے گھر پہنچی تھی اور اس کے ساتھ ایک اجنبی مرد کو دیکھ کر بوز ہے بابا کو جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا۔ پر وہ ایک حقیقت تھی، اجنبی نے اپنی گاڑی اس کے پھانک پر روکی تھی۔ اسے اتار کر خدا حافظ کہا تھا اور وہ کچھ دیر و ہیں کھڑی ہاتھ ہلا کر اسے الوداع کہتی رہی تھی۔

شمسم زیدی ابھی تک اپنی میز کے سامنے خاموش بیٹھی تھی۔ چائے میز پر رکھی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ پھلتے ہوئے اندھیرے کو دیکھ کر بوز ہے بابا نے ٹیبل لیمپ کا سونچ آن کیا تو اچانک روشنی پھیل گئی اور اس نے نظریں اٹھا کر بوز ہے بابا کو دیکھا اور پھر اپنی ہتھیلوں میں اپنے سر کو دبا کر اسی کاغذ کو گھورنا شروع کر دیا جس کے نیچے اس کا پاسپورٹ، امریکہ جانے کا ویزا اور دوسرا سفری کاغذات رکھتے تھے۔

گھڑی کی نکٹ اور ہوا سے پھڑ پھڑاتے کاغذ کی آواز کے سوا کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ وقت رینگتا ہوا گزر رہا تھا جس کا اسے کوئی احساس نہ تھا۔ ٹیبل لیمپ کی زرد روشنی میں کمرے کا ماحول کچھ اور بھی ویران اور ادا اس اداگ سالگ رہا تھا۔

اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور پانی کا بھرا ہوا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں پی گئی جیسے برسوں کی پیاسی ہو یا تپتی ہوئی ریت پر گھنٹوں سفر کرنے کے بعد پیاس کی شدت سے نذر ہاں ہو۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھول دی۔ اندھیرے میں روشنی کے انگفت نقطے اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔

”تو آج وہ آرہا ہے۔“ وہ زیر لب بڑ بڑائی اور جیسے ساری عمر کی تھکن اس پر اچانک ہی ٹوٹ پڑی ہو۔ گیٹ سے باہر اونچے اونچے درختوں پر رات کے سائے اتر رہے تھے۔ ان درختوں کے درمیان روشنی کے اداں نقطے تہائی کے احساس کو شدید تر بن رہے تھے۔

آج کا دن شاید آن ہونے واقعات و حادثات کے لیے مقرر تھا۔ ایسے واقعات جو اس کے آہنی وجود کو پکھلارہے تھے۔ صبح تک وہ بالکل نارمل تھی۔ اس نے معمول کے مطابق اپنی کلاسیں ختم کیں۔ امریکہ کے سفر کے لیے اپنے کاغذات مکمل کیے تھے۔ پھر لیبارٹری میں دریتک ڈاکٹر وقار کے ساتھ کام کرتی رہی تھی۔ لیکن ڈپریشن نہ جانے کیوں اس کے پورے وجود پر طاری تھا اور یہ ڈپریشن اسی وقت سے طاری تھا جب سے اس۔ نہ اپنے کاغذات مکمل کر کے پاسپورٹ حاصل کیا تھا۔ وہ عالمی سائنس کافرنس میں ایک اسکالر کی حیثیت سے اپنے ملک کی نمائندگی کرنے جا رہی تھی۔ یہ اس کے کیریئر کی معراج تھی جس کے لیے اس نے برسوں جدوجہد کی تھی لیکن اس نمائندگی کی بجائے ڈپریشن اس پروٹ پڑا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس ہوتی چلی جا رہی تھی۔

ادا سی کی اسی کیفیت میں ڈاکٹر وقار نے آج پھر اپنی وہ پیشکش دہرائی جس کا اظہار اشاروں اشاروں میں وہ کئی سال سے کر رہا تھا لیکن آج اس کی اس پیشکش سے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے دل کا وہ دروازہ جس پر وقت نے زنگ کی مہر لگادی تھی اس دستک سے چرچرا اٹھا ہو۔ سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود تباہی کی ایک یلغار تھی جو اسے بہائے لیے چلی جا رہی تھی۔ اس کمزور لمحے میں ڈاکٹر وقار نے اپنی پیشکش کچھ اس حرمت سے دہرائی کہ ہر بار کی طرح نہ تو اس نے مردوں کے روایتی حق ملکیت پر لکھ دیا اور نہ ہی یہ کہہ کر اس کا دل جیتنے کی کوشش کی کہ وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔

شمسمہ زیدی ڈاکٹر وقار کی پیشکش کو اس بار نظر انداز نہ کر سکی اور اس نے اسے واضح طور پر قبول کر کے ڈاکٹر کو حیران کر دیا۔ وہ حصار جو پچھلے پندرہ سال سے اس نے اپنے گرد کھینچ رکھا تھا، آخر کار آج ٹوٹ گیا تھا لیکن نہ جانے کیوں اس اقرار سے دل کا بوجھ بلکہ ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا تھا۔ اس کے اعصاب بدستور منتشر تھے اور احساسِ تباہی شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔

میز پر پیپرویٹ تلے دبے ہوئے اس کے سفر کے کاغذات اسے اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے لیکن ان کا غذاء کے اوپر رکھا ہوا ٹیلیگرام "کمنگ ٹوناٹ" کی اطلاع دے رہا تھا اور اس کے پورے وجود کو بڑائے دے رہا تھا۔ کھڑکی کے قریب سے ہٹ کر وہ دروازے کے قریب آئی اور اسے کھول کر باہر برآمدے کی سیر ہیوں پر بیٹھ گئی۔ ابھی صرف شام کے سات بجے تھے لیکن دور دور تک اندر ہیرے اور نائلے کے سوا کچھ نہ تھا۔ ستمبر کی ہلکی خنک ہوا سے درختوں کی شاخیں لہرا رہی تھیں اور ان سے عجیب سی غمناک سرسر اہٹ پیدا ہو رہی تھی۔

شمسہ زیدی نے محسوس کیا جیسے وہ اندر پہنچ رہی ہو۔ پچھلے پندرہ سال سے وہ ایک پلانٹ کی مانند گھڑی کی سوئیوں کے اشاروں پر اپنے شب و روز بس رکر رہی تھی۔ ایک ایک لمحہ مصروف اور کار آمد۔ اس کی نظریں آگے کی طرف دیکھتی رہی تھیں۔ دماغ آگے کی سوچ تارہ تھا۔ پرانے آج اس پلانٹ میں کہاں کیا گڑ بڑ ہو گئی تھی کہ وہ آگے کی طرف دیکھنے کی بجائے پیچھے کی طرف چل پڑی تھی جہاں وہ راستہ اسے صاف دکھائی دے رہا تھا جس پر برسوں برس چلتی ہوئی وہ اطمینان و سرت کی اس منزل تک پہنچی تھی۔

اس نے دور سڑک پر اندر ہیرے میں دوڑتی بھاگتی گاڑیوں کو دیکھا جو روشنی کے نقطوں کی مانند ادھر ادھر حرکت کرتی نظر آ رہی تھیں۔ وہاں اسے سرخ فرماک، سرخ موزے اور جوتوں میں ملبوس ایک نسخی سی پیچی نظر آئی جو سرخ ربن سے بندھی پونی ٹیل لہراتی تھیوں کے پیچھے بھاگتی ریڈ رائیڈنگ ہڈ نظر آ رہی تھی پھولوں کو توڑتی، انہیں اپنے ہاتھوں میں سنبھالتی، سون کے کاسنی اور سفید پھولوں کے جھنڈ میں دامیں باسیں دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک اسے ان جھاڑیوں کے پیچھے وہ مکار بھیڑ یا نظر آ جاتا ہے اور وہ خوف زدہ ہو کر پھولوں کو پھینک کر بھاگتی چلی جاتی ہے۔ پھولوں بھری وہ وادی جو چشمے کی گنگنا ہٹوں اور شہد کی مکھیوں کی خواب آور بھجنہا ہٹوں سے گونج رہی تھی اپنی تمام خوشبوؤں سمیت دور ہوتے ہوتے بہت پیچے رہ گئی اور اب اس کے پیروں کے نیچے سنگلاخ زمین تھی اور بھورے بے درد کانے۔ ان

پھر وہ اور کانٹوں میں دوڑتے دوڑتے اس کے پیر لہو لہاں ہو گئے تھے اور پھر وہ بھاگتی ہوئی پچی صندل جیسی رنگت والی ایک نازک بدن لڑکی میں بدل گئی تھی جس کے سیاہ لمبے بال اس کی کمر کے نیچے لہرار ہے تھے اور وہ اپنی منزل کی طرف بھاگتی جا رہی تھی۔

اور اب اس کی راہ میں دونوں چمپا اور رجنی گوندھو کے کنج تھے، دھان کے کھیتوں کے نیچوں بیچ سرخ کنوں سے بھرے تالاب تھے۔ دور حد نظر تک آم اور کٹھل کے باغوں اور ناریل کے درختوں کے جھنڈ تھے، برہم پُترا کی موجودوں میں بل کھاتی ہوئی کشتیوں سے ابھرنے والے مانجھیوں کے گیت گونج رہے تھے، ندیوں اور نالوں کے پُرسکون کناروں تک جھکے ہوئے دھان کے خوشے تھے اور رم جہنم برستی برکھا کی پھواریں تھیں۔ وہ یہ سب کچھ پیچھے چھوڑتی ہوئی بس چلی جا رہی تھی۔ پر اب اس کی چال میں بڑا اوقار، بڑی تمکنت اور شہرا و آگیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے باپ کے جنازے کو قبرستان کی طرف جاتے دیکھا اور اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔

اور پھر وہ تھی اور اس کی ماں۔ اور وہ دونوں ایک پتے ہوئے ریگ زار میں کھڑے تھے۔ ماں نے اس کے سر پر اپنے مہربان آنچل کا سایہ کر رکھا تھا تاکہ سورج کی بے رحم کرنیں نیزد کی طرح اس کے چہرے کو زخمی نہ کر سکیں۔ اپنی اسی کمزور ماں کے پُرشفقت آنچل کے سائے میں اس نے میڑک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور خود اعتمادی کا پہلا زینہ چڑھ کر بڑے اطمینان سے اپنے ارگردد دیکھا۔ اس وقت کرشنا چورا کے وہ پھول جو باپ کی موت کے بعد اسے انگارے سے لگتے تھے پھر خوبصورت نظر آنے لگے تھے اور رجنی گوندھوا اور دونوں چمپا سے کنج بھر گئے تھے۔ آم اور کٹھل کے باغوں میں کوئی پھر سے کونے لگی تھی اور فضا پھر سے شفق رنگ ہو گئی تھی۔ اپنی زندگی کا نصب العین اس نے اپنے شفیق باپ کی خواہش کے مطابق طے کر لیا تھا اور اسے حاصل کرنے کے لیے تن من کی بازی لگا دی تھی۔

لیکن اس کی بوڑھی ماں اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے کوشش تھی۔ اسے اپنی

اکلوتی حوصلہ مند بیٹی کے سر پر تی ہوئی اور ڈھنی میں بہت سے چھید نظر آ رہے تھے اور اس سے پہلے کہ وہ تار تار ہو جائے اسے اس کے سر پر ایک مضبوط چھت مہیا کرنی تھی اور جب ٹھنڈے سایوں والی مستحکم چھتیں اس کی طرف بڑھنے لگیں تو اس نے محفوظ ترین چھت منتخب کر لی۔

اس کے مغرور اور وجیہہ شوہر نے اپنی دولت سے اس کے لیے جن مسرتوں کا اہتمام کیا ان کی کوئی قدر و قیمت اس کی نگاہوں میں نہ تھی۔ شانے سے شانہ ملا کر چلنے اور تلخ و ترش تجربوں میں باہمی شراکت کا جو تصور اس کے ذہن میں تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اپنی دولت اور مردانہ برتری کے غرور نے اس کے شوہر کے سر کو بہت بلند کر دیا تھا۔ وہ اسے سیم وزر سے آ راستہ کر کے اپنی وجاہت اور دولت کے سامنے شکر گزاری کے سجدے قبول کرانے کا ممتنع تھا اور وہ زندگی کی شاہراہوں پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلنے کی آرزو مند۔

بہت جلد وہ اس رشتے سے تنفر ہو گئی۔ اس کی آرزو ایک خواب بن کر بکھر گئی اور شوہر کے ساتھ نباہ کا تعلق ماں کے شیشہ دل کی حفاظت کی خاطر محض ایک مصلحت بن گیا۔ یوں نباہ ہوتا رہا اور وہ اپنی علمی مصروفیتوں میں گم ہو گئی۔ اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف وہ تعلیم حاصل کرتی رہی۔ نفترتوں اور تلخیوں کے اس ماحول میں وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہی۔

اسی وقت طوفانوں اور سیلا بول کی سرز میں ایک نئے اور بھی انک طوفان کی لپیٹ میں آ گئی۔ چھوٹے چھوٹے پودوں کا توڑ کر کیا بڑے بڑے تاوار درخت بھی اپنی جڑوں سے اکھڑنے لگے۔ نفترتوں کی خون رنگ شفق سے مطلع تاریک ہونے لگا۔ خوابوں کے جال بننے والے سیلا بکی زد میں بہنے لگے۔ ناخن سے گوشت جدا ہونے لگے۔ نچے ہوئے ناخنوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اور خون پیکتی انگلیاں انہیں اپنے جسم کا حصہ ماننے سے انکار کرنے لگیں۔ خوبصورت مناظر نے خون رنگ لباس پہن لیے۔ پرندوں نے چہکنا بند کر دیا۔ پدم اور برم پترا کی بچھری ہوئی موجودوں نے دامانِ ساحل تار تار کر دیا۔ ملا جوں کے سرمدی نغمے چلتا ہاڑتی ہوئی موجودوں کے جان لیوا چھیڑے بن گئے۔ ہرے بھرے درختوں کی شاخوں نے سانپوں

اور اژدھوں کا روپ دھار لیا۔ پکتے ہوئے دھان کے سنہرے آویزے دھار دار بھالے بن گئے۔ کرشنا چورا کے پھول انگارے بن کر فضا میں بکھر گئے اور وہ زمین وہ آسمان جن سے اس کا جنم جنم کا ساتھ تھا بدلت کر رہ گئے۔

اس نے طوفان میں اس کے شوہر کی نا آسودہ آنا کو تعصباً کا ایک نیا روپ مل گیا۔ اس کی نگاہوں میں غیریت، اجنبیت، نفرت اور بے اطمینانی کے خوفناک چراغ جل اٹھے جس سے اندر ہمراپ کچھ اور بڑھ گیا اور جب طوفان تھما تو نفرت کی ایک بلند دیوار کے پیچھے اس کا سب کچھ چھوٹ گیا۔ طوفان میں اڑ کر وہ کہیں سے کہیں آ پہنچی تھی۔

اب وہ ایک مشین بن گئی تھی لیکن اس آہنی مشین کا ایک پُرزہ دھڑ کنے لگا تھا جسے زنگ خورده قفل توڑ کر باہر نکلنے کو ہے۔ یادیں دستک دے دے کر اسے کمزور کیے جا رہی تھیں۔ صبح سے پیدا ہونے والے ڈپریشن نے طوفان کے آثار پیدا کر دیے تھے، زمانے بھر کی ادایاں اس پر ٹوٹی پڑ رہی تھیں۔ دل، درد سے بوجھل تھا۔ یادوں کے پردے کے پردے اس کے سامنے سے گزر رہے تھے اور اس کے قدم اکھڑے جا رہے تھے۔ وہ بہت سے بڑے چھوٹے درختوں کے ہجوم میں ایک خوبصورت پودے کی مانند ابھری تھی۔ مہربان درختوں نے اپنے سائے میں اسے پروان چڑھایا تھا۔ سورج کی گرمی اور آندھیوں کے جھلکوں سے بچایا تھا اور جب یہ جھومتا ہرا تا پودا آس پاس کے درختوں کا سہارا لیتا ہوا بڑھاتا تو اسے ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا جو دیسی پودوں کے درمیان اجنبی، نامناسب اور ناموزوں تھا۔ اسے اکھاڑ کر دیوار کے اس پار پھینک دیا گیا۔

دیوار کے اس پار ریت ہی ریت تھی۔ گرمی، جسم اور گھٹن نے اس کا برا حال کر دیا۔ اس کی رگ رگ میں بسی ہوئی زمین کی بآس اس پر رم جھم کرتی برسات، اندر ہمراپ ہولناک راتوں اور امنڈتے دریاؤں کی متلاشی تھی۔ وہ فضا اور ماہول اس کے وجود میں سرا یت کر چکا تھا۔ وہ حیران حیران نظر دل سے ناریلیں کے درختوں کے جھنڈ تلاش کرتی۔ بانس

کے گھروں میں رہنے والے سادہ لوح لوگوں کی محبتیں، ان کی شفیق صورتیں، وہ کچھ بھری گلیلیں اور بازار، اس کا اسکول، کالج، وہاں گزارے ہوئے شب و روز، وہ لڑکیاں، استانیاں، پرنسپل، وہ سب لوگ کہاں گئے، وہ کہاں آگئی ہے۔ مگر نہیں وہ خود تو نہیں آئی اسے باغ سے ناپسندیدہ گھاس پھوس سمجھ کر اکھاڑ کر پھینکا گیا ہے۔ اس کی اکھڑی ہوئی جڑوں سے چمٹی ہوئی گلی مٹی کی خوشبوابھی تک تازہ ہے اور اپنی اصل سے مل جانے کے لیے بے قرار۔ وہ خلا جہاں سے اسے اکھاڑا گیا ہے۔ اندھے کی آنکھوں کی طرح ویران ہو گا، پر اب وہ اس میں کس طرح سما جائے۔

ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اسے احساس دلایا کہ اس کے گالوں سے آنسو پک ٹپک کر اس کی گود میں گرتے جا رہے تھے۔ اس نے اپنے گالوں پر ہاتھ پھیرا اور اندر ہیرے میں اپنی گلی ہتھیلوں کو دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے اس کے ہاتھوں میں خون لگا ہوا ہو۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آئی تو لیمپ کی محدود روشی میں اپنا کمرہ اسے اور بھی ویران اور خالی سامنے ہوا۔ میز پر ٹیلیگرام و یہی پھر پھر ارہتا۔

”کمنگ ٹوناٹ“ اس نے چونک کر گھڑی کی طرف نظر اٹھائی۔ رات کے نوجھ رہے تھے۔ اب وہ آنے ہی والا ہے۔ اس خیال سے وہ پریشان ہو گئی، ادھر ادھر نظر دوڑائی جیسے کسی کو مدد کے لیے تلاش کر رہی ہو مگر وہی ظالم بے در و تہائی پوزے کمرے پر محيط تھی۔

”وہ کیوں آ رہا ہے؟ کیوں؟“ اس نے پریشان ہو کر سوچا۔ اسے اپنے شوہر کے الفاظ یاد آ گئے۔ وہ اس کا عزم یاد آ گیا کہ وہ اسے کچھ نہیں بننے دے گا۔ تم میری بیوی کے سوا کچھ نہیں بن سکتیں۔ اس نے بڑے وثوق سے کہا تھا تو کیا وہ یہاں آ کر اس سے اپنا انتقام لے گا کہ کیوں وہ اتنی بڑی اسکالر بن گئی کہ میں الاقوامی کانفرنس میں اسے نمائندگی کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ کیا وہ اسے بدنام کرے گا۔ وہ خوف سے لرزائی۔ آخر وہ ایسا کیوں کرے گا اس نے تو مجھے نفرتوں کے طوفان کا سہارا لے کر دیوار کے اس پار و حکیل دیا تھا۔ پھر خود دیوار کے

آس پاس رہ گیا تھا کیونکہ بزعم خود وہ اسی سر زمین کا پودا تھا۔

شمسہ زیدی انجانے خوف سے لرز رہی تھی، طرح طرح کے وسو سے اسے اندر رہی اندر ریزہ ریزہ کیے دے رہے تھے، وہ ایک بے بس بچی کی طرح خوف زدہ تھی جسے محبت بھری آغوش کی ضرورت تھی جس میں منہ چھپا کروہ محفوظ و مامون ہو جائے مگر گھڑی کی ٹک ٹک سوا کوئی آواز نہ تھی اور وقت لختہ لخطہ کر کے گزر رہا تھا۔

اسی وقت کال بل کی آواز سے وہ یوں اچھل پڑی جیسے اس کے کانوں کے قریب کسی نے بندوق داغ دی ہو۔ اس کے کانوں میں سیٹیاں سی بجھنے لگیں اور وہ بھٹی بھٹی نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی جدھر سے وہ نمودار ہو رہا تھا۔ بابا کے پیچھے پئے ٹلے قدم اٹھاتا وہ کمرے میں داخل ہوا تھا یہ پ کی زرد روشنی میں اس کا سایہ پورے کمرے پر محیط ہو گیا تھا۔

وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ویسا ہی باوقار اور پُر غرور۔ البتہ اس کی کنپیوں کے بال سفید ہو رہے تھے۔ یہی وہ نقصان تھا جو پچھلے پندرہ برسوں نے اسے پہنچایا تھا۔ وہ کسی تمہید کے بغیر کہہ رہا تھا۔ ”دو بار تمہارا پتہ معلوم کرنے کی کوشش میں ناکام ہو کر واپس جا چکا ہوں لیکن اس بار مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔“

”کیوں؟“ اس نے بھٹی بھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔

”اس لیے کہ اب تم اس ملک کی ایک نامور شخصیت بن گئی ہو۔“

شمسہ زیدی اس کے اس فخریہ لمحے سے حیران رہ گئی۔ ماضی کی تنجیوں نے اس پر یلغار کر دی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ وہ اس کے کچھ اور قریب آگیا۔ جھک کر اس کا چہرہ دیکھا اور شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے زمی سے کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا۔

”کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بیمار ہوتم؟ میرے آنے سے خوشی نہیں ہوئی تمہیں؟“  
اس نے کئی سوالات پوچھ ڈالے تھے جن کی اس سے کوئی توقع نہیں تھی۔ ان

سوالوں میں طنز کے نشتر دل کی جگہ اپنا سیت کا مرہم تھا۔ اس نے اپنے سامنے جھکے ہوئے اس پر وقار آدمی کی طرف دیکھا جو اس دھرتی کی خوبیوں سے بسا ہوا تھا جس کی بُو باس کے لیے وہ اتنے عرصے سے ترس رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے برسوں بعد کرشنا پورا اور رجنی گوند ہو کی متواہی خوبیوں نے اس کے کمرے پر یلغار کر دی ہے۔ اس نے نظر انھا کر کھڑکی کے باہر دیکھا تو کٹھل اور آم کے درختوں اور کیلے اور انناس کے باغوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا نظر آیا جانی پہچانی مانوس خوبیوں نے جیسے اس کے پورے وجود کو گھیر لیا۔

وہ پھوار جو آج صحیح ہی سے اس کے اندر پڑ رہی تھی اب ٹوٹ کر بر سنبھال گئی۔ اس نے بے اختیار اپنا سر اس کے شانوں پر رکھ دیا اور اس کا کمرہ جیسے چھت سے فرش تک روشنی سے بھر گیا۔



## منزل کہاں ہے تیری

”ہم کب تک یوں ہی چلتے رہیں گے؟“

”جب تک منزل نہ آ جائے!“

”منزل ہے کہاں؟“

”جہاں ہمارا سفر ختم ہو جائے گا۔“

”یہی تو میں پوچھتی ہوں ہمارا سفر کب اور کہاں ختم ہو گا؟“ عورت نے بیزاری اور مایوسی سے پوچھا ”کوئی حد ہے۔ جب ہم چلے تھے تو ہمارے بال سیاہ تھے اور اب تم دیکھ رہے ہو نا؟“

”دیکھ رہا ہوں،“ مرد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا ”تم کو یاد ہے جب ہم نے سفر

شروع کیا تھا تو ہماری منزل وہ تھی جہاں لوگوں کے دل سیاہ نہ ہوں گے۔“

”تم پاگل ہو!“

”تم بھی پاگل ہو۔“ مرد نے کہا ”تم سے کس نے کہا تھا کہ میری شریک سفر بن جاؤ۔“

”میں اکیلی تو نہ تھی،“ عورت نے کہا ”ہزاروں تھے۔ وہ آواز ہی ایسی مسحور کن تھی کہ سب مست ہو کر گھروں سے نکل آئے تھے اور آواز کی سمت چل پڑے تھے۔“

”تو پھر مجھے الزام کیوں دیتی ہو؟“

”اور کیا کروں؟“ عورت بے بسی سے بولی ”اس منحوس سفر نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔“

”منزل پر پہنچ کر ساری گلفت دور ہو جائے گی۔“

دونوں چپ ہو گئے۔ مرد نے افق پر نگاہیں جمادیں جہاں گھنے درختوں کے درمیان شاید کسی گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ بڑی بے تابی سے تابی سے بستی کی سمت بڑھنے لگے۔ دنیا کے اولین جوڑے کی طرح سر گرداتا۔ جیسے صدیوں سے پہاڑوں، بیابانوں، دریاؤں اور صحراءوں کو پار کرتے کرتے تھک گئے ہوں۔

وہ تھکن سے نڈھاں تھے، راستے کی سختیاں سہتے سہتے ان میں زبان تک ہلانے کی سکت نہ تھی۔ مرد نے اپنا فرض محسوس کرتے ہوئے عورت کو تسلی دی اور وہ نہایت خاموشی سے اس ٹیلے سے نیچے اتر گئے جس کے پار ناریل اور کیلے کے درختوں کے جھنڈ میں گاؤں انگوٹھی میں نگینے کی طرح جگما رہا تھا۔ ہوا سے ہلتے ہوئے درختوں کے درمیان بانس کی چٹائیوں اور فتحیوں سے بنی ہوئی دیواریں اور کھڑکیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔

انہوں نے نئی تازگی اور تو انائی محسوس کی جیسے انہیں منزل تک پہنچنے کا یقین ہو گیا ہو اور صدیوں پہلے جو سفر شروع ہوا تھا وہ شاید اب ختم ہو رہا ہو۔

جب وہ گاؤں میں پہنچے تو سورج اپنا سفر ختم کر رہا تھا اور کرنوں کے نکلیے نیزے اپنی تمازتیں سمیٹ رہے تھے۔ لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ گاؤں کے بیشتر گھر خالی

تھے۔ بستی ویران پڑی تھی۔ البتہ کہیں کہیں چند بوڑھے ڈرے سہے بیٹھے تھے جیسے کسی نادیدہ دشمن سے خوفزدہ ہوں۔

”یہ سب کہاں چلے گئے؟“ اس نے ایک بوڑھے سے پوچھا جو اپنی دہلیز پر بیٹھا بُری طرح کھانس رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولا اور صرف سر کے اشارے سے دور گاؤں کے ایک سرے کی طرف اشارہ کیا جہاں مردوں، عورتوں، بچوں اور جوانوں کا ہجوم ایک تناوار درخت کو گھیرے کھڑا تھا۔ انہوں نے سنا ادھر سے مہیب شور بلند ہو رہا تھا۔ شاید ہجوم نعرے لگا رہا تھا۔ انسانوں کا ایک انبوہ تھا جو سخت مشتعل اور پُر جوش ادھر سے ادھر حرکت کر رہا تھا۔ عورت جو بہت زیادہ تھک گئی تھی بوڑھے کے برابر دہلیز پر بیٹھ گئی۔

”یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟“ اس نے بوڑھے سے پوچھا۔

”دشمن کا صفا یا۔“ بوڑھے نے سرگوشیوں میں جواب دیا۔

”دشمن؟“ مرد نے حیرت سے سوال کیا۔ ”کہاں؟ کدھر؟“

”وہ بلند والہ اور تناوار درخت تم نہیں دیکھ رہے ہو جس کی جڑیں ہماری دھرتی کی چھاتی میں بڑی بیدردی سے پیوست ہیں۔“

”درخت؟ مگر تم تو کسی دشمن کی بات کر رہے تھے!“

”وہی تو ہمارا اصل دشمن ہے۔“

”کیا کہہ رہے ہو؟ درخت بھی دشمن ہوتے ہیں؟“

”ہم بھی یہی سمجھے تھے۔ پچ پوچھو تو ہمیں اب بھی یقین نہیں مگر.....“

”مگر؟“

”ہمارے پچھے ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہ اسی دھرتی کے بیٹھے ہیں۔ ان سے بہتر اس کا بڑا بھلاکون جانتا ہے۔“

”وہ اس درخت کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟“

”ہاں بابا ہاں،“ بوڑھے نے کہا۔ ”تم بیٹھ جاؤ۔ تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو۔“

وہ حیران سا وہیں اس بوڑھے کے پاس بیٹھ گیا۔ بوڑھا چپ چاپ حقے کے کش لگاتا رہا اور ادھر دیکھتا رہا جہاں گاؤں کی تقریباً پوری آبادی ایک درخت کو گھیرے کھڑی تھی اور بے شمار کلہاڑیوں سے اس کے تنے اور شاخوں کو لہو لہان کر رہی تھیں۔

”آخريہ ماجرا کیا ہے؟“ اس نے قدرتے تو قف کرتے ہوئے پوچھا۔

”یہ تو ان سے پوچھو جو اس منحوس کو جڑ سے کاٹ پھینکنے کا عزم کر چکے ہیں۔“

”آخروہی کیوں؟“ اس نے پوچھا ”یہاں تو ہر طرف درخت ہی درخت ہیں۔“

”یہ ان سب سے الگ ہے،“ بوڑھے نے جواب دیا ”اس کی جڑیں ہماری زمین کی شادایوں کو چوں رہی ہیں اور اس کا گھنا سایہ سورج کی روشنی کو ہماری زمین تک آنے سے روک رہا ہے۔“

”یہ بھی تو دیکھو کہ اس کے سائے میں پورا گاؤں تپتی ہوئی دھوپ سے پناہ لے سکتا ہے۔“

”بکواس! ہمیں پناہ لینے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ ہمیں سورج کی روشنی چاہیے۔“

”مگر درخت لگایا کس نے؟“ اس نے پوچھا۔

”برسون پہلے جب ہماری نوجوانی کا عالم تھا ایک لاگر بوڑھا کہیں سے آیا تھا۔ اس نے گاؤں پر کچھ ایسا سحر کیا کہ ہم سب اسی کا دم بھرنے لگے۔ وہ چلا گیا لیکن اس کی باقی میں گونجتی رہیں۔ تب ایک روز یہ درخت نمودار ہوا۔ کہتے ہیں وہی بوڑھا اس کے بیچ یہاں لایا تھا۔“

”اچھا!“

”ہاں! اور پھر مغرب سے ایک آندھی اٹھی اور انسانوں کا ہجوم خزان رسیدہ پتوں اور شاخوں کی طرح ہر سمت بکھر گیا۔ ادھر بھی کافی لوگ آئے۔ پھر انہوں نے اسی درخت کے سائے میں پناہ لی۔“

”پھر؟“

”پھر تو اس کے بارے میں عجیب عجیب باقی مشہور ہوئیں۔ جن لوگوں نے اس

کے سائے میں پناہ لی تھی وہ اسے مقدس سمجھنے لگے۔ وہ کہتے یہ وہ درخت ہے جس کے سائے میں کپل و ستو کے شہزادے کو شانتی کا سند یہ سے ملا تھا۔“

”بڑی عجیب بات ہے!“ اس نے دچپی لیتے ہوئے کہا۔

”ہاں بڑی عجیب بات،“ بوڑھے نے کہا ”وہ نج جو یہاں کی مشی میں دفن کیا گیا دیکھتے دیکھتے ایک بڑے سایہ دار درخت میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی جڑیں پھیلتے پھیلتے بستی کے گوشے گوشے میں پہنچ گئیں۔ اور پھر تکچڑ اور پانی میں لٹھرا ہوا یہ گاؤں دور دور مشہور ہو گیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جن لوگوں نے اس کے سائے میں بڑی بے سروسامانی کے عالم میں پناہ لی تھی وہ خوب پھلے پھولے۔ اور تب یہ خیر و برکت کی علامت بن گیا۔“

”لیکن اب لوگوں کے عقیدے کو کیا ہوا اور وہ اس کے دشمن کیوں ہو گئے؟“

”یہی تو بات ہے!“ بوڑھا بولا ”درخت کی نحودت کی طرف ہمارا دھیان بھی نہ جاتا۔ لیکن ایک روز اس پار کے ایک گاؤں سے رات کی تاریکی میں کچھ لوگ آئے۔ انہوں نے ہمارے بیٹوں کو بتایا کہ یہ منحوس ہے اور اس کی نحودت نے اس کے یہاں لوگوں کی نیندیں اڑادی ہیں۔ اگر اس کو کامانہ گیا تو اس کی نحودت آس پاس کے دوسرے قصبوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔“

”اچھا! اور تم نے اُن کی باتوں پر یقین کر لیا؟“

”کیوں نہ کرتے؟ وہ ہمارے دشمن تو نہ تھے۔ ہم صد یوں تک ایک تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں پر آنے والی ہر آفت اور ہر طوفان اسی درخت کی نحودت کا نتیجہ ہے۔ اور بات ہماری سمجھ میں آ گئی۔“

”بات سمجھ میں آ گئی؟“

”ہاں۔ اور فیصلہ کر لیا گیا کہ درخت کاٹ دیا جائے۔“

”تمہارا فیصلہ اُٹل تھا؟“

”ہاں! مگر یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ پورے گاؤں میں اس کی جڑیں پھیلی ہوئی

ہیں۔ اور بہت سارے لوگ آج بھی اسے خیر و برکت کی علامت سمجھتے ہیں۔ وہ ہماری مسلسل مزاحمت کر رہے ہیں لیکن ہمارے دوستوں نے اس مشکل کا حل بھی بتایا ہے۔“

”کیسے روکو گے ان کی مزاحمت کو؟“

”جو ہماری راہ میں حائل ہو گا اُسے بھی درخت کی شاخوں کی طرح کاٹ دیا جائے گا۔ دیکھو پورا گاؤں اس پر ضرب میں لگا رہا ہے۔“

”تم تو ہم پرست ہو۔“ اس نے کہا ”درخت انسانوں کے مصائب اور راحتوں کا باعث کب ہوتے ہیں۔“

”جو بھی ہو!“ بوڑھا پر عزم تھا ”اب تو یہ کٹ کر رہے گا۔“

”مگر وہ جو مزاحمت کر رہے ہیں؟“

”کم بخوبی وہی ہیں جنہوں نے جانے کہاں کہاں سے آ کر اس کے نیچے پناہ لی تھی،“  
بوڑھا بولا۔ پھر کچھ دیر ادھر دیکھتا رہا۔ کہنے لگا۔

”آؤ اب تمہیں اصل تماشہ دکھاؤ۔“

اور جب وہ درخت کے قریب پہنچے تو انہیں ہر طرف لاشیں بکھری نظر آئیں۔  
مردوں، عورتوں اور بچوں کی لاشیں، مگر لوگوں کا جم غفیران سے بے نیاز درخت کو چاروں طرف سے گھیرے کھڑا تھا۔ یوں کہ اس کے قریب پہنچنا بھی مشکل تھا۔ پسینے میں شرابور نگے سیاہ جسم دھوپ میں تپ رہے تھے اور درخت پر دیوانہ وار ضرب میں لگا رہے تھے۔

ایک اور ہجوم بڑھ بڑھ کر کلہاڑی چلانے والے ہاتھوں کو روکنے میں اپنی جان کی بازی لگا رہا تھا۔ وہ نہتے تھے اور اہواہ ان تھے۔ ان کے ہاتھ بھر پور ضربوں کو روکنے کی کوشش میں کٹ رہے تھے۔ گرد نیس جسم کا ساتھ چھوڑ رہی تھیں مگر ان کے حوصلے پت نہ ہوتے تھے۔ جب کسی کی کاری ضرب سے کوئی شاخ کٹ کر گرتی یا کوئی گردن کٹ جسم دھم سے گرتا تو ہجوم مسراحت سے چھٹا۔ جیسے انہوں نے اپنے ازلی دشمنوں کے نکڑے اڑا دیے ہوں۔ نو عمر لڑ کے گردن کئے جسموں اور کئی ہوئی شاخوں کو گھیٹ گھیٹ کر دور لے جا رہے تھے۔ بعضوں

نے کئے ہوئے سروں کو اپنی ٹھوکروں سے فٹ بال کی طرح ادھر ادھر اچھالنا شروع کر دیا تھا اور اپنے اس کھیل میں مست تھے۔ وہ درختوں کے شاداب پتوں اور ہری ہری شاخوں کو اپنے پیروں تک رومندر ہے تھے۔

”تمہارے گاؤں کے لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے“، اس نے بوڑھے سے پوچھا ”ایک درخت کو کامنے کے لیے اس قدر دیوائی نگی۔ یہ تو تمہیں ٹھنڈک اور سایہ فراہم کرتا ہے۔“

”تم کیا جانو“، وہ بولا ”سافر ہو ادھر سے آئے اور ادھر چلے جاؤ گے۔“

”مگر درخت کامنے کے لیے اتنی خوزیریزی؟“

”خوزیریزی؟“، وہ بولا ”یہ تو نجاست سے نجات حاصل کرنے کے لیے قربانی دی جا رہی ہے۔“

وہ حیران سا کھڑا اس سارے تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہجوم کی وحشت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ گھنے اور سایہ دار درخت کی شاخیں کٹ چکی تھیں اور مشتعل ہجوم انہیں ریزہ ریزہ کر کے پھینک چکا تھا۔ لیکن درخت کا تنا بھی باقی تھا اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ تمام کلہاڑیاں براہ راست تنے پر واکر رہی تھیں۔ ہر ضرب سے چھال سمیت گیلی لکڑی کا کوئی مکڑا کٹ کر فضا میں اڑتا اور ساتھ ہی کسی کا ہاتھ بھی کٹ جاتا۔ پُر جوش ہجوم یوں چیختا جیسے کسی دشمن کا سر کاٹ کر فضا میں اچھال دیا ہو۔ جو لوگ کلہاڑیاں چلاتے چلاتے تھک جاتے وہ ایک طرف ہو جاتے اور ان کی جگہ تازہ دم گروہ شامل ہو جاتا۔ مگر وہ بھی اپنی دھن کے پکے تھے جو کٹ کر گر رہے تھے، لہولہاں ہو رہے تھے مگر درخت کو کٹنے سے بچانے کے لیے بڑھ بڑھ کر مزاحمت کر رہے تھے۔ ایسا لگتا جیسے دونوں ہی پاگل ہو گئے ہوں۔

اور پھر اس نے دیکھا کہ جوانوں کا ہجوم قدرے ما یوس سا ہو گیا ہے۔ صبح سے تیرا پہر ہو گیا۔ درخت پر لا تعداد ضرب میں لگائی جا چکیں، شاخیں ختم ہو گئیں، پتے بکھر گئے، مگر جڑ تھی کہ زمین چھوڑنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ وہ صبح سے بھوکے پیاسے مسلسل محنت کر رہے تھے کہ جب تک یہ منہوس درخت نہ گرجائے ان پر دانہ پانی حرام ہے۔ مگر ان کا عزم متزلزل ہو رہا

تھا۔ وہ سخت بے یقینی کے عالم میں ضریب لگا رہے تھے۔

تب اچانک ایک سمت سے ایک شور بلند ہوا اور ایک ہجوم نمودار ہوا۔ وہ تازہ دم تھے اور ان کے چہرے بٹاٹ اور مسرت سے دمک رہے تھے۔ وہ اپنے ساتھ تیز دھار والے لمبے چوڑے آرے لائے تھے۔

”اوہ واب درخت کٹ جائے گا“، بوڑھا مسrt سے چیخا۔

آنے والوں نے لمبے چوڑے آرے کو درخت کی جڑ سے لگایا اور دونوں طرف ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک نعرہ لگایا اور ارا چلنے لگا۔ آرے کی تیز دھار درخت کو تیزی سے کاٹنے لگی۔ وہ ایک طرف جھکنے لگا۔ پُر اشتیاق چہرے چاروں طرف سے گھیرا ڈالے جھک جھک کر درخت کو کٹنے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے خوشی سے گلنا رہتے۔ مگر وہ جو نہتے تھے اور درخت کو کٹنے سے بچا رہے تھے دیوانوں کی طرح ادھر سے اوہر دوڑ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر تھا کہ درخت کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں، اپنے شانوں پر سنبھال لیں اور اسے زمین پر گرنے نہ دیں۔ درخت تیزی سے ایک طرف جھک رہا تھا اور وہ بڑی تعداد میں اس کے نیچے جمع ہو رہے تھے کہ درخت گرنے نہ پائے اور خیر و برکت کا چشمہ خشک نہ ہو جائے۔

آخر کار درخت ایک دھماکے کے ساتھ گر پڑا اور ایک لمبی چیخ بلند ہوئی۔

”اوہ یہ چیخ کیسی تھی؟“، اس نے گھبرا کر پوچھا۔

”شاید یہ درخت کی چیخ تھی!“، بوڑھا بولا، ”اس بھیا نک عفریت کی آخری چیخ!“

”نہیں!“، اس نے کہا ”یہ ان ہزاروں انسانوں کی چیخیں تھیں جنہوں نے اس کے

نیچے پناہ لی تھی اور آج اسے گرنے سے بچاتے ہوئے اس کے نیچے دب کر فنا ہو گئے۔“

”منحوں درخت!“، بوڑھے نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا ”کمخت گرتے گرتے

بھی ہزاروں جوانوں کو کھا گیا۔“

لیکن گاؤں والوں کو درخت کے نیچے دب کر ہلاک ہونے والوں سے کوئی مطلب

نہ تھا۔ وہ آپس میں گلے مل رہے تھے۔ یوں جیسے عید کے دن ملتے ہیں۔ انہوں نے پڑوس کے گاؤں سے آئے والوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا۔ ایک ہجوم تھا جو بڑی دھوم سے تیز دھار والے آلے کو چوم رہا تھا جس نے برسوں پرانے اور تناؤ درخت کو آن کی آن میں زمین بوس کر دیا تھا۔ ہجوم خوشیاں مناتا، نعرے لگاتا گاؤں کی سمت بڑھ گیا۔

آداب واپس چلیں!“ اس نے بوڑھے سے کہا ”درخت تو کٹ گیا“

”نہیں وہ اب بھی موجود ہے“، بوڑھا تشویشناک لبجے میں بولا ”یہ دیکھ رہے ہو۔ درخت درمیان سے کٹا ہے اور اس کی جڑیں پوری طرح ہماری زمین میں پیوست ہیں۔

ہماری دھرتی کا رس پی کر یہ پھر سراٹھائے گا۔“

”تو پھر؟“

”کچھ نہیں۔ کل کیا ہو گا یہ سوچنا ہمارا کام نہیں!“

عورت بوڑھے کی جھونپڑی کے دروازے پر دیر سے اُن کی منتظر تھی۔ نہیں دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھاس کے تنکوں کو اپنے کپڑوں سے جھاڑتے ہوئے بولی۔

”ہماری منزل یہی ہے نا؟“

”نہیں فریب منزل!“ اس نے مختصر سا جواب دیا اور محبت سے اس کا ہاتھ کپڑا لیا۔

”تمہاری تھکن دوڑ ہو گئی ہو گی آداب چلیں!“

”آگے؟“ عورت چیخ اٹھی ”اب کہاں؟“

”کیا پتا!“

”تو گویا اب ہم بھٹکتے رہیں گے!“

”شاید!“ وہ بولا اور عورت کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔

بوڑھا اپنی دہلیز پر خاموش کھڑا نہیں جاتے دیکھتا رہا۔

## والپسی

برسون بعد آج ایک بار پھر وہ اپنی جانی پہچانی گلیوں میں کھڑی تھی۔

وہی درود یوار پر اگتا ہوا سبزہ، وہی روئے آب پر کائی کا سماں، نیلے آسمان کے  
نیچے سیاہ بادلوں کا شامیانہ تنا ہوا، وہی کچھڑا اور پانی سے لت پت گلیاں جن میں ہوش سنجانے  
سے لے کر جوانی تک کی منزلیں اس نے طے کی تھیں۔ آم اور کٹھل کے ان ہی جھومتے  
درختوں اور کیلے کے باغوں کے درمیان سے گزرتی وہ فراک اور جانگلیہ پہنے اپنی سہیلیوں چمپا،  
زمپا اوسا اور شانو کے ساتھ اچھلتی کو دتی اسکول جایا کرتی تھی۔

راتستے کی ترتیب وہی آج بھی تھی جس کا ہر موڑ اور سارے چیز و خم برسریوں سے اُس  
کے حافظے پر تقدیش تھے۔ وہی لو ہے کا پل اور اس پر سے گزرتی ہوئی ارجمند کے دھنش کی سی

سرک جس کے نقطہ عروج پر لو ہے کا پل تھا جس کی ریلنگ پر آج بھی برسوں پہلے کے وہ خوفناک نعرے لکھے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر وہ دہل جاتی تھی۔ پل کی ڈھلوان ختم ہونے پر جہاں سے سرک ہمارا ہو جاتی ہے چار جموکی دکان آج بھی موجود تھی اور پچھتم کی طرف جہاں سے سرک کی چڑھائی شروع ہوتی ہے وہاں چاند میاں مودی اب بھی بیٹھا ہے جو اسکوں جاتی اور واپس آتی بچیوں کو روک کو ان میں کھٹی میٹھی گولیاں تقسیم کرتا تھا۔

پل کے دونوں طرف جہاں سے چڑھائی شروع ہوتی ہے مغلوک الحال لڑکوں کا گروہ آج بھی ولی ہی میلی بنیان پینے، رنگ رنگ کی تہم باندھے جمع ہے۔ لڑکوں کا یہ گروہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہر آنے جانے والے سائیکل رکشے اور ٹھیلے والوں سے دس دس پیسوں کے عوض انہیں پچھے سے دھکیل کر پل کے نقطہ عروج پر پہنچا رہا ہے جہاں سے دوسری طرف کے نشیب میں وہ پیڈل چلائے بغیر اتر جاتے ہیں۔ البتہ بعض کمزور رکشے والے اپنی سواری پر قابو نہیں رکھ پاتے اور اس تیزی سے ڈھلوان سے اترتے ہیں کہ حادثہ یقینی ہو جاتا ہے۔ رکشے اور ٹھیلے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، سواریاں یا انماج کی بوریاں بکھر جاتی ہیں اور خود وہ بھی زخمی ہو جاتے ہیں لیکن اس کی انہیں پرواہی کب ہوتی ہے۔ وہ تو سواریوں کو کسی نہ کسی طرح انتہائی بلندی تک پہنچا دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ بلندی سے جب ڈھلوان کا سفر شروع ہوگا تو رکشے اور سواریوں کا کیا حال ہوگا۔ وہ تو بس اپنی مزدوری وصول کرتے اور بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ پھر کوئی کسی ہوٹل میں گھس جاتا ہے، کوئی کسی دکان کے پڑے پر ساتھیوں کے ساتھ جو اکھیلے میں مصروف ہو جاتا ہے اور کوئی بیڑی کے کش پر کش لگاتا خالی خالی نظروں سے خلا میں گھورتا نظر آتا ہے۔

اسی محراب نما پل کے ایک طرف شہید اللہ چاچا کا دواخانہ تھا جہاں کی دوائیں وہ اس وقت سے کھاتی آ رہی تھی جب امی اسے دبوچ کر دوائیں میں کھلاتی تھیں۔ ذرا آگے دامیں جانب سردار صاحب کی ڈیکوریشن کی دکان تھی۔ دکانیں بیشتر بند تھیں لیکن ان میں اجنیت کی جگہ اپنائیت کا احساس تھا۔ بڑے چاؤ سے وہ ایک ایک دروازے کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ تب

ہی اسے چودھری چاچا کا مکان نظر آیا جس کے دروازے ہمیشہ کی طرح آج بھی کھلے تھے، جیسے کسی تھکے ہارے کو اپنی آغوش میں پناہ دینے کو بے قرار ہوں۔ تلخ و شیریں یادوں کے گھونٹ پتی وہ جلدی سے چودھری چاچا کے گھر میں داخل ہو گئی۔

چودھری چاچا کے گھر میں آج بھی سب کچھ دیے ہی تھا۔ چاچی جاموں کی جو میں دیکھ رہی تھیں، زگس کوئی کتاب کھولے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی، پاس ہی رحمان صاحب اور محی الدین صاحب کی بیویاں بیٹھی تھیں۔ اسے دیکھ کر سب ہی حیرت زدہ رہ گئیں۔ وہ دوڑ کر زگس سے لپٹ گئی۔ یوں جیسے اب کبھی جدا نہ ہوگی۔ پھر وہ یوں روئی جیسے بوڑھی گنگا کا سارا پانی اس کی آنکھوں میں سمت آیا ہو۔ زگس نے اسے خود سے الگ کر کے صوفے پر بٹھایا اور پھر چاچی نے جیسے ساری ہمتوں کو سمیٹ کر بڑی حیرت سے پوچھا۔

”بیٹی تم؟ کیسے آئیں؟“

”میرا دل وہاں نہیں لگتا چاچی۔ اس بھیگی بھیگی سیاہ مٹی کو جس میں میرا وجود پلتا رہا ہے کس طرح چھوڑ دوں؟“ وہ جیسے پھٹ پڑی ”اسی دھرتی میں میرے ماں باپ کا خون جذب ہو چکا ہے، میں اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں؟“

سب اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے اور وہ جیسے خواب میں بڑا بڑا رہی ہو۔ ”یہ زمین سوتے جا گتے مجھے بلا تی رہی ہے، مجھے اشارے کرتی رہی ہے۔ میری روح تو شاید اتنے عرصے ان ہی گلیوں میں بھکتی رہی ہے۔“ اس نے چودھری چاچا کو دیکھا جو خاموشی سے اسے تک رہے تھے۔

”چاچا تم نے تو مجھے گلیوں میں چلتے پھرتے ضرور دیکھا ہو گا؟“

چودھری چاچا اس اچانک بے تکے سوال سے گڑ بڑا گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے ”اب یہاں تمہارا کچھ نہیں ہے بیٹی!“

”یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟“ وہ ترپ اٹھی ”یہاں آپ ہیں، زگس ہے، چاچی ہیں، میرا گھر ہے اور وہ زمین ہے جس نے مجھے سیراب کیا ہے۔ اس کے سوا کہیں میرا اٹھکانا

نہیں ہے۔“

پھر وہ بولتی ہی چلی گئی۔ وہ سب کچھ انہیں بتا دیا جو اس پر گزری تھی۔

چودھری چاچا ترجم آمیز نظر وہ سے اسے دیکھتے رہے۔ پھر چاچی اٹھی اور اسے اندر کمرے میں لے گئی جہاں سامنے کی دیوار پر ٹیکوڑ کی قد آدم تصویر آ ویزاں تھی جس کے گرد تازہ چھولوں کی نالا لپٹی تھی۔ وہ اس گھر کی تمام جزئیات سے آشنا تھی۔ پہلے اس جگہ نذرِ ول کی تصویر ہوا کرتی تھی۔ دوسری طرف کی دیوار پر ایک کھونٹی سے قرآن پاک لٹکا ہوا تھا جس کے جزدان کا اصل رنگ گرد کی موٹی تہہ کے نیچے دب گیا تھا۔

آنکھیں بند کر کے وہ بستر پر لیٹ گئی اور اپنے اس لمبے سفر کے بارے میں سوچنے لگی جس کی ایک ایک منزل اور ایک ایک موڑ پر اسے شدید ذہنی کرب سے گزرنا بڑا تھا۔ گزشتہ برسوں کے واقعات اس کے حافظے پر نقش تھے۔ والدین کی اپنے ہی گھر کے آنکن میں شہادت اور پھر وہاں سے نکل کر ہزاروں میل دور اپنے بھائی کے گھر تک کا سفر۔ وہ بے آب و گیاہ۔ سر زمین، آگ بر سانے والا سورج، خلوص اور محبت کی نبی سے محروم رتیلی منٹی، اپنوں کا رحم اور مروت سے عاری سلوک، اسے سب کچھ اپنی مکمل جزئیات کے ساتھ یاد تھا۔ سینے میں زخم ڈالتے ہوئے زہریلے فقرے، اپنوں ہی نے اس کی زبان اور لب و لمبے کا مذاق اڑایا، اس کے طور اطوار پر خوب بننے، اسے کوتاہ اندیشی کے طعنے دیے۔ البتہ کسی نے یہ جانے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ سب کیسے ہوا؟ اور اب کیا ہوگا؟ کون اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا۔ کون یہ بتائے گا کہ جو کچھ ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ بھلا اپنا گھر اپنے ہاتھوں کون اجاڑتا ہے۔ اپنے آشیانے میں خود بھی کسی نے آگ لگائی ہے۔

لیکن دوسری طرف تو لوگ اپنی خوش بختی پر نازاں تھے۔ سجدہ شکر بجالا رہے تھے کہ وہ اپنے ادھر کے عزیزوں کی بد بختی سے محفوظ رہے کتنے اپنی دور اندیشی پر نازاں تھے۔ وہ اگر وہاں ہوتے تو ہوا کا رخ پہچانتے۔ لٹیروں اور قاتلوں کا ساتھ دیتے۔ ٹرینیں اڑاتے، بم دھماکے کرتے اور مزے کرتے کیونکہ دور اندیشی کا یہ تقاضا تھا، وہ سوچتی اور کڑھتی، اتنے

عرصے اس نے کڑھنے کے سوا کیا ہی کیا تھا۔

اسے وہ دن بھی یاد آئے جب بھائی بھاوج نے ایک خدا تری صاحب سے بیاہ کر اسے اپنے گھر سے یوں رخصت کیا جیسے کبڑی کے ہاتھوں ردی فروخت کی جاتی ہے۔ ایک طرف ایک مجروح اور زخم خورده احساسات کی شخصیت اور دوسری طرف کار خیر اور ثواب دارین کے تمنے سجائے دولہا میاں۔ دو کمروں کے فلیٹ میں اس کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہ تھا۔

نئے گھر میں اپنی غیر معیاری زبان کی وہبہ سے لوگوں سے ملنے جانے سے گریز کرتی۔ سارا دن وہ ننگے پاؤں دو کمروں کے فلیٹ میں چلتی اور بار بار لپک کر بالکونی پر چلی جاتی جیسے کمرے میں اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ پنجھرے میں بند پرندے کی طرح وہ دور خلاؤں میں تکتی رہتی۔ امنڈتی گھٹاؤں، لہراتے سیاہ بادلوں اور پدما اور سرما کے ٹھنڈے پانیوں کو آواز دیتی۔ دھان اور پٹ سن کے ہرے بھرے کھیت، بانس کے لہلہتے جنگل ہزاروں میل دور سے اسے آواز دیتے۔ مٹی اور کچڑ سے لتھڑی گلیاں اسے اپنی طرف بلا تیں اور عروس البلاد اسے کھولتا جہنم نظر آتا جہاں ہفتتوں وہ کسی خوش رنگ چڑیا کا نغمہ سننے کو ترستی۔ کچڑ بھرے تالاب میں کھلتے کنوں دیکھنے کو بے قرار رہتی۔

وہ پھر وہ آنے جانے والوں کی نظروں سے بے نیاز بالکونی میں کھڑی رہتی۔ اس کی سہیلیوں کے سائے رنگ رنگ کی سائزیوں میں ملبوس اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزرتے رہتے۔ اپنے گھر کے صحن میں لیٹئے ہوئے ابو کے سر میں وہ تیل ماش کرتی، یونیورسٹی کی راہداری میں کھڑی سامنے بہتی ندی میں ابھرتی، ڈولتی کشتی کے بچکوں کا لطف اٹھاتی۔ ہرے بھرے کھیتوں، آم اور کنٹھل کے باغوں اور کیلے کے سبز پودوں کے درمیان سے گزرتی، درختوں کے گھنے سرمی سایوں میں چلتی اور ٹھنڈی ہواؤں میں اس کا آنچل موجود میں ڈولتی کشتی کے باد بان کی طرح لہراتا۔

اور پھر جب اس کا شوہر اسے جھنگھوڑ کر بتاتا کہ یوں بے مقصد بالکونی میں کھڑے

رہنا بڑی بات ہے تو اس کی آنکھیں نہم ہو جاتیں۔ ایک بار پھر وہ جہنم میں لوٹ آتی جہاں لق و دق صحر اور سراب کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہر طرف پیاس ہی پیاس تھی اور آب حیات کا دور دور پتہ نہ تھا۔ وہ ایک آہ بھر کر گھر کے کاموں میں لگ جاتی لیکن اس کی روح اپنے محلے کی گلیوں اور گھر کی راحت بخش فضاؤں میں بے قرار پرندے کی طرح پھر پھر آتی رہتی۔

صد مہ اس بات کا تھا کہ دوسروں کی طرح اس کے شوہرنے بھی اسے پاگل کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی باتیں پاگل پن کی ہی باتیں تو تھیں۔ وہ دریاؤں، بادلوں اور سبزہ زاروں کے دلیں میں واپس جانا چاہتی تھی۔ فوم کے صوفوں کی جگہ گیلی مٹی کے فرش پر بیٹھنا چاہتی تھی، اونچی ایڑی کے سینڈل چھوڑ کر ننگے پاؤں چلنا چاہتی تھی۔ آخر کار ایک دن وہ اس پاگل خانے سے نکل بھاگی جہاں اسے پاگل سمجھا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی ساری پونچی ایک ایسے آدمی کو سونپ دی جو اس جیسے لوگوں کو ان کے وطن پہنچایا کرتا تھا۔

تیرے پھر جب وہ سو کر اٹھی تو ہر طرف ادا سی تھی۔ چودھری چاچا کے منع کرنے کے باوجود وہ اپنی دہلیز چومنے نکل کھڑی ہوئی۔ میکے کی وہ چوکھت جسے چومنے کی خواہش ہر سہاگن کو ہوتی ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے چاچی اور زگس نے اسے خبردار کیا۔

”اپنے گھر کی طرف نہ جانا بیٹی۔ ادھر خطرہ ہے۔“

لیکن وہ بے تابانہ نکل کھڑی ہوئی۔ اسی وقت سردار صاحب کی دکان سے شاہ جہاں نے اسے دیکھا۔ اور ابھی وہ حیرت سے کھڑا کچھ پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ دو چار متجسس نوجوان جمع ہو گئے۔

”یہ لڑکی کون ہے؟“ انہوں نے ایک دوسرے سے سوال کیا۔ ابھی وہ اسے گھیرنے کی سوچ ہی رہے تھے کہ وہ سامنے والے دکان کے بازو والی گلی میں جا گھسی۔ وہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے ادھر پہنچنے ہی والے تھے کہ سامنے ڈھا کیشوری اسکول کی عمارت دیکھ کر وہ اس کے برابر والے مکان میں داخل ہو گئی جہاں ہیڈ مسٹر لیں رہتی تھیں۔ یہ وہی خاتون تھیں جنہوں نے چار سال کی عمر میں اسے اپنے اسکول میں داخل کیا تھا اور وہیں سے اس نے

میڑک کیا تھا۔ وہ امی سے ہمیشہ اس کی تعریفیں کیا کرتی تھیں۔ اس بات نے اسے سہارا دیا اور وہ باور پی خانے کی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی وہ خود کو سنبھالنے بھی نہ پائی تھی کہ دو مسلح افراد گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ رضیہ آپا کو پکارتی ہی رہ گئی لیکن ان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اسی وقت ایک آدمی لپک کر آگے بڑھا ہی تھا کہ وہ بھاگ کر سامنے والی کوٹھری میں گھس گئی اور دوسری طرف کا دروازہ کھلا پا کر پچھے باغ میں نکل گئی۔ کچھ دیر بعد جب ذرا سنا ٹا ہوا تو رضیہ آپا نے اسے سنبھایا کہ اس کی وجہ سے لوگ ان کی بیٹی کی عزت کے درپے ہو جائیں گے۔

رضیہ آپا کے انکار پر ایک بار پھر وہ سڑک پر آ گئی۔ سامنے اس کا اپنا گھر تھا۔ گلی میں مسلح پہرے دار گھوم رہے تھے۔ شدید ماہیوی کے عالم میں اسے تارا کی دوستی یاد آئی اور وہ دوسری طرف سے ہو کر تارا کے گھر چل گئی۔ تارا اسے دیکھ کر حیرت اور تشویش سے کانپ انھی اور پھر اسے گلے لگایا۔ تارا سے اسے اپنے مکان پر روشن میاں کے قبضے کا علم ہوا۔ روشن کبھی اس کے مکان کی بالائی منزل میں اس کا کرایہ دار ہوا کرتا تھا۔ اپنی قابل اعتراض نجی زندگی کے باوجود اسے شریف آدمی سنبھا جاتا تھا کیونکہ وہ اپنی پڑوی گمراہ لڑکیوں کو محلے کے آوارہ لڑکوں سے بچانا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اپنے گھر پر روشن علی کے قبضے کا حال سن کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد گلی جب ذرا سنسان ہوئی تو وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔

اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بڑی خاموشی سے دبے پاؤں وہ اپنے گھر میں یوں چل رہی تھی جیسے کسی زیارت گاہ میں چل رہی ہو۔ سامنے صحن میں اس کی امی کی نشت گاہ تھی جہاں شام کو اس کی امی فرش پر گاؤں تکیے سے لگی بیٹھی ہوتیں۔ اطراف میں ان کی سہیلیاں ہوتیں۔ مراد آبادی پانداں کھلا ہوتا اور بنگال کے خستہ پان کی گلوریاں بن رہی ہوتیں۔ محلے بھر کے مسائل کا ذکر ہوتا۔ اس نے بڑی عقیدت سے اپنی ماں کے بارے میں سوچا۔ پھر نظریں چھت کی طرف اٹھ گئیں جہاں اس کا اور بہن بھائیوں کا پالنا لٹکایا جاتا تھا۔ رہی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اب بھی چھت سے لٹک رہے تھے لیکن اب وہاں کوئی پالنا نہ تھا۔ ان میں پلنے والے بچے اس کے اور بڑے بھیا کے سواب آسودہ خاک ہو چکے تھے۔

اے پالنے کی ڈوری ہلانے والی سفید بالوں اور رعشہ دار ہاتھوں والی فاطمہ ماں یاد آئی جواب نہ جانے کہاں ہوگی۔ اے یوں لگا جیسے وہ ایک بار پھر نسخی سی بچی بن جائے اور فاطمہ ماں کے بوڑھے سینے سے لگ کر امی کی ڈانتوں سے محفوظ ہو جائے۔ آج تو گھر میں نہ امی ہیں اور نہ فاطمہ ماں جو دنیا کی ظالم نگاہوں سے اے محفوظ کر لیتیں۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی چخ اٹھے۔

”فاطمہ ماں! فاطمہ ماں، کو تھائے آشو، کو تھا سنونہ کیون؟“، مگر اب وہاں آواز دینے والا کون تھا۔

سامنے صحن میں موتیا اور گلاب کی کیاریاں بدستور موجود تھیں۔ وہیں چمپا اور گندھوراج کے پودے آج بھی لمبھاہر ہے تھے۔ بنگال کی مہربان زمین اور بادلوں سے ڈھکا آسمان ایک شفیق ماں کی طرح ان پر اپنے آنچل کا سایہ کیے انہیں مر جھانے سے بچائے ہوئے تھا لیکن وہ پُر شوق ہاتھاب کہاں تھے جنہوں نے بڑے ارمانوں سے یہ پودے لگائے تھے۔ صحن کے دوسری طرف اس کا اپنا کمرہ تھا جس کی کھڑکیاں لان میں کھلتی تھیں۔ کھڑکیوں سے گلاب کی زرد اور سفید کلیاں آج بھی نظر آ رہی تھیں اور اس سے سوال کر رہی تھیں کہ وہ واپس آئیں کیوں۔ دوسری طرف امی کی نشت کے پیچھے ابا کا کمرہ تھا جس کی کھلی کھڑکی پر ایک کوا بیٹھا کامیں کامیں کر رہا تھا گویا اسے مسلسل ڈانت رہا تھا۔ ”تم کیوں آئی ہو۔ بتاؤ اس گھر سے اب تمہارا کیا رشتہ ہے؟“

نیچے تخت اور فرش کی جگہ پرندوں کی بیٹ بکھری تھی۔ روشندانوں میں چڑیوں کے گھونسلے تھے جن سے گھاس پھوس اور پھٹے پرانے چیتھڑے گر کر نم آ لود ہواوں سے ادھر ادھر خاک میں ڈل رہے تھے۔ وہ ایک ستون سے لگی کھڑی تھی اور اپنے راحت کدھ کے بام و در کو حسرت سے تک رہی تھی۔ اس گھر کے پیچے پیچے پر اس کے قدموں کے نشان اور اس کے وجود کی مہریں لگی تھیں۔ دیواروں پر پنسل سے لکھے بہن بھائیوں کے نام آج بھی باقی تھے۔ دیواروں پر لکھنے کی عادت پر اسے بارہا ڈانت پڑی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ آج وہ پھر کسی دیوار

پر کچھ لکھے اور امی باور چی خانے سے نکل کر اسے ڈانٹنا شروع کر دیں۔

تب ہی دروازے پر آہٹ ہوئی اور روشن علی گھر میں داخل ہوا۔ یہ وہی روشن علی تھا جس نے ایک بار بیساکھی کے میلے میں جب اچانک طوفان آجائے سے وہ بھیڑ میں کھو گئی تھی اور ابوکا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا تھا تو اسی نے اسے پہچانا تھا اور پھر گود میں اٹھا کر گھر پہنچا دیا تھا۔ زندگی کے ہنگاموں اور طوفان کی زد میں آ کر آج وہ پھر سب سے نچھڑ کر ماری ماری پھر ہی تھی کہ روشن علی سامنے آ گیا۔ پر اب وہ اسے کہاں پہنچائے گا؟

اس نے پلٹ کر روشن علی کو دیکھا جو بڑی حسرت اور تاسف سے اسے دیکھ رہا تھا۔

”تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو؟“ اس نے پوچھا۔ چودھری چاچا نے اسے سب

کچھ بتا دیا تھا۔

”ہاں!“ اس نے مختصر سا جواب دیا۔

”لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے،“ روشن علی نے جواب دیا۔ اس نے اسے چودھری چاچا کے گھر چھپ کر رہنے کا مشورہ دیا۔

”آؤ شام سے پہلے میں تمہیں وہاں پہنچا دوں،“ وہ بڑی اپناستیت سے بولا۔

”تم جانتی ہو گی کہ میں ایک بدنام آدمی ہوں۔ تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔“

وہ چپ چاپ سر جھکائے اس کے پیچھے چل پڑی۔ بڑی حسرت سے مڑ کر اس نے اپنے گھر کو دیکھا جس کے فرش پر اس کے والدین کا خون رچا ہوا تھا۔ اسی گھر کی بالکونی سے وہ سڑک پر سے نفرے لگاتے ہوئے گزرتے جلوسوں کو دیکھا کرتی تھی۔ یہیں سے اس نے ہر طرف سے شعلے اٹھتے دیکھے تھے اور فریاد و فغاں کا شور سنا تھا۔ اسی وقت گلی سے گزرتے مسلح رضاکاروں نے اسے ٹھہرنے کا حکم دیا۔ روشن علی نے اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ ادھر ادھر سے کئی جوان نکل آئے۔

”اس عورت کو ہمارے حوالے کر دو،“ کسی نے حکم دیا۔

”یہ عورت میری بہن ہے۔“ روشن علی نے ڈپٹ کر جواب دیا اور جیب سے

ریو اور نکال لیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے ایک دوسرے کو اشارے کیے اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ وہ پھر چل پڑی۔ ابھی وہ سڑک پر آئے ہی تھے کہ ایک فائر ہوا اور روشن علی نے دھکا دے کر اسے ایک طرف کر دیا۔ فائر کرنے والے کو ایک گندی سی گالی دی اور غصے سے سرخ ہو گیا۔

اب وہ سڑک پار کر کے ”شانتی کنج“، کی طرف جا رہے تھے کہ ایک فوجی ٹرک نے ان کا راستہ روک لیا۔ فوجی ٹرک سے نیچے اترے اور ان کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں کمینگی اور سفلہ پن ابھرا یا تھا۔ وہ گھبرا کر روشن علی سے چکی جا رہی تھی۔ روشن علی کا تعلق بھی اسی گروہ سے تھا جو فوجی کارروائی کے وقت بھاگ کر پڑوی ملک میں جا چھپا تھا اور اپنے اس کارنا مے پر محبت وطن قرار پایا تھا۔ چنانچہ تھوڑی بحث و تکرار کے بعد وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔

روشن علی کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ نہ جانے کیوں وہ سخت تشویش میں بدلانظر آ رہا تھا۔ پھر وہ محمد ارشاد صاحب کے گھر میں داخل ہوئے جہاں دیر تک صلاح و مشورے کے بعد روشن علی کو بتایا گیا کہ یہ لڑکی ہم میں سے نہیں۔ اگر اس کو یہاں رہنے دیا گیا تو آزادی خطرے میں پڑ جائے گی اور ساری قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ روشن علی بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے بسی، خجالت اور غصے کے ملے جملے جذبات کی کشمکش صاف دیکھی جاسکتی تھی۔ اسے بتایا جا رہا تھا کہ اس لڑکی کو پناہ دینے والا خود عتاب کا شکار ہو جائے گا۔

روشن علی چپ چاپ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا گلی میں نکل آیا۔ پھر باری باری سے اس نے کئی دروازے پر دستک دی۔ وہ اس کے پیچھے یوں چل رہی تھی گویا صد یوں سے اسی طرح چلتی آئی ہو۔ محلے کا ہر شخص اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ ہر گھر کی لڑکیاں اس کی سہیلیاں تھیں۔ آج وہ اسے یوں دیکھ رہی تھیں گویا زندگی میں پہلی بار دیکھا ہو۔ ان کے چہروں پر ناگواری کے جذبات صاف جھلک رہے تھے۔ نفرت، شدید نفرت اور اس سے جوان ہی کے درمیان پلی بڑھی اور آج اپنے اس گھر میں آباد ہونے کا حق مانگ رہی تھی۔ جو اس کے والدین کی میراث تھا اور جہاں وہ پیدا ہوئی تھی۔

شام سر پر آ گئی تھی اور روشن علی کو ہر گھر سے ایک ہی جواب مل رہا تھا۔ یہ لڑکی ہم میں سے نہیں ہے۔ روشن علی کا چہرہ امید اور نا امیدی کی کشمکش سے دھواں ہو رہا تھا۔ وہ ایک ضدی آدمی تھا اور اپنی بات منوانے کا عادی تھا۔ آج وہ اس لڑکی کو اپنا حق دلانے پر شُل گیا تھا۔ محلے والوں کو اپنا ہم خیال بنانے میں ناکام ہو کر وہ اپنے گودام کی سمت چل پڑا کہ رات وہ لڑکی کو وہیں بند کر دے گا اور صبح کوئی تدبیر کرے گا۔ وہ لڑکی جو اس کے سامنے پیدا ہوئی، پلی بڑھی اور آج اس کے رحم و کرم پر ہے۔ وہ اسے خود ساختہ فوجیوں کے حوالے کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کلکتہ میں ایسی لڑکیوں کا حشر دیکھا تھا۔ وہ اس کو بر باد ہوتے دیکھنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پا رہا تھا۔

روشن علی وہی تو تھا جس نے ہنگاموں کے ابتدائی دنوں میں جب اس کا گھر بارٹ گیا تھا اور عزیز رشتہ دار شہید ہو گئے تھے تو اسے اپنے گھر لے جا کر رکھا تھا اور پھر اس کے بھائی کے پاس کراچی بھیج کر خود اس کے گھر پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن اب جب وہ واپس آ گئی تھی تو اسے غنڈوں اور بھیڑیوں کے حوالے کرنے کے تصور سے اسے شدید اذیت ہو رہی تھی۔ وہ دو گھنٹے سے اسے اپنے ساتھ لیے لیے پھر رہا تھا۔ ایک ایک دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اس کے اندر انسان اور حیوان کے درمیان شدید کشمکش ہو رہی تھی۔

اور آخر کار جب وہ اپنے ڈپو پر پہنچا تو کانپ اٹھا۔ خود ساختہ فوجیوں کا ٹرک وہاں پہلے سے موجود تھا۔ محلے والوں نے روشن علی کے ساتھ ایک غیر لڑکی کی موجودگی کی اطلاع نہیں پہلے ہی دے دی تھی۔ ٹرک کے قریب ہی چودھری چاچا کھڑے تھے۔ فوجیوں کو دیکھ کر اس نے بڑی بے بسی سے روشن علی کا بازو پکڑ لیا۔

”اب کیا ہو گا روشن بھائی؟“ اس کی دہشت دیکھ کر روشن علی کے اندر کا انسان جاگ اٹھا۔

”ڈر نہیں!“ وہ آہستہ سے بولا۔ وہ کسی قطعی فیصلے تک چینچ گیا تھا۔ بڑی نرمی سے اس نے سہمی ہوئی لڑکی کا ہاتھ اپنے بازو سے الگ کیا اور پورے اعتمد سے افسر سے مخاطب ہوا۔

”اس لڑکی کو نہ تو میں جیل بھیج سکتا ہوں اور نہ آپ کے حوالے کر سکتا ہوں۔“

”ٹھیک ہے،“ آفیر بولا، ”تم ابھی اس کو اپنے پاس رکھو پھر ظہور میاں، شمسو میاں اور آندہ بابو کے حوالے کر دینا۔ سب سے پہلے ان ہی لوگوں نے ہمیں اطلاع دی تھی۔“

”کیا کہہ رہے ہیں؟“ روشن علی چیخ اٹھا، ”اس لڑکی کو میں نے واپس بلوا�ا ہے اور آج ہی میں اس سے شادی کر رہا ہوں۔ یہ اسی دھرتی کی بیٹی ہے۔“

سب کی نظریں جھک گئیں۔ وہ جو ایک غیر لڑکی کی رسائی کا تماشاد کیھنے آئے تھے ان کے منہ لٹک گئے۔ فوجی بڑی ناگواری کے ساتھ اپنے ٹرک پر سوار ہوئے اور ٹرک ایک جھکے سے آگے بڑھ گیا۔ روشن علی نے چودھری چاچا کو حقارت سے دیکھا اور پھر ایک ایک چہرے کو قہر آ لونگا ہوں سے گھورتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ باہر اس کا شوہر جانے کب سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ بھیگی ہوئی آنکھوں کو پوچھتی ہوئی وہ اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ کراچی کی گرم اور جھلسادینے والی ہوا کے ساتھ ہی پسینے میں ڈوبا ہوا اس کا شوہر اندر چلا آیا۔ گرم لوک کے تھیڑوں نے اسے خواب کی دنیا سے تلنخ حقیقوں کی دنیا میں گھیث لیا تھا۔



## آئینے کا آدمی

”کیا کہا؟ آئینے میں تمہیں اپنے بجائے وہ نظر آتا ہے؟“

یہ سوال کرتے ہوئے جیٹ کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے کچھ اور بھی کھل گئیں۔

وہ دونوں اسٹریچن آئی بیٹھ جانے والی فیری کے انتظار میں دری سے بیٹھے تھے۔

دونوں پہلی بار ایک دوسرے سے ملے تھے۔ رسمی تعارفی جملوں کے تبادلے کے دوران چند مشترک باتوں کے انکشاف نے جیٹ کو اس میں دلچسپی لینے پر اکسایا تھا۔ دونوں کو ایک ہی جا ب کے لیے انٹرو یو کال ملی تھی۔ دونوں نے ساتھ ہی ایمپلائمنٹ ایچینچ کے دفتر میں فارم پر کیے تھے اور پہلی بار انٹرو یو face کرنے کے تجربے سے گزرنے جا رہے تھے۔ دونوں کو ایک ہی دفتر میں ایک ہی جا ب کے لیے انٹرو یو دینا تھا۔ اتفاق سے دونوں نے اسی سال الگ الگ اسکولوں سے گریجویشن کیا تھا۔

جینٹ انتہائی حیرت سے اس بھولے بھالے لڑ کے کو دیکھے جا رہی تھی جس نے اپنے ماضی کے بارے میں اسے بتاتے ہوئے یہ حیران کن بات کہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنی سیدھی سادی کہانی سن اچکی تھی جو اس کے معاشرے کی بیشتر لڑکیوں کی کہانی تھی۔ اس نے اس کے قریب سر کتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔

”پھر کیا ہوا؟“

”پھر میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ تم ہو تو میں کہاں گیا اور اگر یہ میں ہوں تو تم کہاں سے آگئے؟ سارا سارا دون اسی سوال میں الجھا رہتا ہوں۔“ اس نے بڑی اداسی سے کہا۔ چہرے پر پھیلے ہوئے دکھ کے سائے نے اسے کچھ اور معصوم سا بنادیا تھا۔ اسی وقت شدید ترجم کے ایک لمحے نے جینٹ کو بے ساختہ اس سے اور قریب کر دیا۔

اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے پیارے پوچھا۔

”تم بتا رہے تھے کہ تم نے اسے کبھی نہیں دیکھا ہے اور ماں کو کبھی بتانے کی فرصت نہیں ملی پھر اس کی شکل.....“

”یہ بات مجھے گرینی نے بتائی۔“ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔

”جمعہ کی رات سے لے کر اتوار کی شام تک کے لیے مجھے گرینی کے پاس بھیج دیا جاتا تھا۔ وہ مجھے اکثر بتاتی تھی کہ میں بالکل اپنے باپ کی طرح ہوں۔ ویسے ہی ذرا اوپر کو اٹھے ہوئے نتھنے، چوڑا چہرہ اور چھوٹے کان، ابھرا ہوا سما تھا۔ بالوں کا گرتا ہوا اسٹائل۔ بچپن سے میں آئینہ دیکھتے دیکھتے اپنے آپ کو اسی روپ میں ڈھلتا دیکھتا ہوں۔“ ایک لمحہ کو وہ کھوسا گیا۔ جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔

”مجھے یاد ہے جب ماں کی انگلی تھامے میں گھر سے اسکول جا رہا ہوتا یا شاپنگ مال میں گھوم رہا ہوتا اور میرے جیسے بہت سے بچے اپنے باپ کا یا ماں باپ دونوں کا ہاتھ تھامے آس پاس سے گزر رہے ہوتے تو میں اپنا دوسرا ہاتھ ایک بڑے سے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں

محسوس کرتا تھا۔ تم یقین کرو میں اپنے ہاتھ میں اس کی گرمی بھی محسوس کرتا تھا.....،

اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس نے بے اختیار جینٹ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جینٹ نے اپنا ہاتھ اس کے دوسرے شانے تک پھیلا کر پیار سے اسے تھکی دی۔

”اتوار کی شام کو گرینی کے گھر سے واپس لاتے ہوئے میری ماں مجھے راستے میں پڑنے والے پارک میں لے جاتی۔ وہ اور اس کا بوابے فرینڈ جو اس کے ساتھ ہوتا تھا کسی بیچ پر بیٹھ جاتے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ہمیشہ اپنے پسندیدہ سلائڈ اور جھولے کی طرف بھاگتا تھا۔ وہاں سب بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ انجوائے کرتے تھے۔ بلکہ اب مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کے ماں باپ انہیں انجوائے کرتے تھے۔ وہ انہیں سلائڈ پر چڑھنے میں مدد کرتے اور جب وہ پھسل کر نیچے آتے تو وہ دوڑ کر دوسری طرف آتے اور انہیں زمین تک آنے سے پہلے تھام لیتے تھے اور کبھی قبیلہ لگاتے ہوئے اچھل کر آہستہ سے نیچے اتار دیتے۔ وہ پھر آگے پیچھے دوڑتے ہوئے سلائڈ کی طرف شور مچاتے ہوئے جاتے یا پھر جھولے پر جا بیٹھتے اور باپ لمبی لمبی پینگلیں دیتا۔ جھولے کے اوپر جاتے اور نیچے آتے وقت دونوں زور زور سے گاتے اور ہنستے۔

Up Up The Swing High

Low Low The Swing Down.

دونوں کی آوازیں اور قبیلہ دوسری آوازوں کے ساتھ گونجتے رہتے۔ جھولے سے اتر کر بچ کبھی باپ کے کاندھوں پر چڑھ جاتے، کبھی گلے میں جھول جاتے اور باپ انہیں سینے سے چمنا کر بڑے والہانہ انداز سے My sweet My Honey, My Sunny My heart جیسے الفاظ ادا کرتے ہوئے انہیں پیار کرتا.....، وہ رک رک کر کچھ سوچنے لگتا۔

”اور پھر کیا ہوتا؟“ جینٹ نے اشتیاق سے پوچھا۔

”پھر میں خود کھیلنا بھول کر ان مناظر میں گم کھڑا رہتا۔ اسی وقت نہ جانے کیوں مجھے آئینے کا وہ عکس ایکدم سے یاد آ جاتا اور ساتھ ہی دور درختوں کے جھنڈ میں آئس کریم

ہاتھوں میں لیے باتوں میں منہمک مجھے میری ماں اور اس کا بوابے فرینڈ نظر آ جاتے۔ جانے کیوں خود پر غصہ آ نے لگتا اور میں زور زور سے رو نے لگ جاتا۔

میری ماں جھلائی ہوئی آئُس کریم کے گلاس کو ڈست بن میں پٹختی ہوئی میری طرف جھپٹتی اور رو نے کی وجہ پوچھتی۔ وہ کچھ سنے بغیر ہی مجھے بازو سے گھٹی ہوئی گاڑی کی طرف چل پڑتی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔

”تم ہمیشہ اسی طرح کرتے ہو، راستے بھروہ مجھے ملامت کرتی۔ جوزی، رائلی اور برٹ کی مثالیں دیتی۔ وہ گھر آتی اور رات کے کھانے کی تیاری اور دوسرا مصروفیات میں لگ جاتی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور کھانے کے بعد اپنا پسندیدہ کارٹون شود کیھے بغیر چپ چاپ بستر پر جا کر لیٹ جاتا۔“

”اچھا تو پھر؟“ جینٹ نے اس کے شانوں کو دوستانہ تھکی دی۔

”پھر میرے تصور میں پارک میں کھیلتے دوڑتے باپ بیٹے ہی ہوتے تھے اور خواب میں تمام رات میں برٹ، رائلی، جوزی اور روکس کے ساتھ خود کو بھی اپنے باپ کی گود میں بیٹھ کر سرکل والے جھوٹے میں جھولتے، بازوؤں میں اٹھا کر ہوا میں اچھالنے، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے بھاگتے، سومنگ پول میں ایک دوسرے کو گیلا کرتے، قبھے لگاتے، پیار کرتے ہوئے، ”مائی سنی، مائی ڈارلنگ“ کہتے دیکھتا رہتا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی روتے ہوئے اٹھنے پر ماں کی جھٹکیاں سنتا اور سارا دن اداں رہتا۔ کلاس میں بھی خواب کے مناظر میں کھویا رہتا۔ ٹیچروں کے سوالات کے اٹھے سیدھے جواب دیتا۔ سارا ہفتہ اسی طرح گزر جاتا۔ پھر جمع کی شام آ جاتی اور ماں مجھے گرنی کے پاس چھوڑ آتی۔“

”اور تمہاری روپورٹ کا کیا ہوتا تھا؟“ جینٹ نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔

”وہ ہمیشہ کی طرح hopeless ہوتی۔“ اس نے کہا۔ ”اگلے سال اسکول والوں

نے میری تحلیل نفسی کرائی جس کے بعد رپورٹ تو ٹھیک ہو گئی لیکن آئینے میں وہ.....“  
جینٹ نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بڑے والہانہ انداز سے اس کی آنکھوں  
میں جھک کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ”کیا اب بھی مجھ سے ملنے کے بعد بھی وہ نظر آتا ہے؟“  
جواب میں اس نے اپنے بازو اس کی کمر کے گرد جمائیں کر دیے۔ دونوں کے ہونٹ  
ملنے ہی والے تھے کہ فیرنی کی آمد کا سگنل بجا اور دونوں کھڑے ہو گئے۔  
”اب وہاں ہم ٹیکسی سے جائیں گے۔“ جینٹ نے گرم سانسوں کے درمیان  
سرگوشی سنبھالی۔

دونوں گیٹ سے محبت کرنے والے امریکی جوڑے کی طرح برآمد ہوئے اور ٹیکسی  
میں آن پیٹھے۔

”۹۸۔ اسٹریٹ اسٹریچن آئی لینڈ۔“  
ٹیکسی والے نے اثبات میں سر ہلا�ا اور ٹیکسی چل پڑی۔ ایک گھنٹے کے اس سفر میں  
دونوں ایک دوسرے میں گم رہے۔ ٹیکسی والے نے ٹیکسی روکی۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ والٹ سے  
پیسے نکال رہا تھا کہ جینٹ نے اندر ہی سے بڑے حروف میں ڈرائیور گ سیٹ کی پشت پر  
لکھے نام پیری اسمتحہ کو پڑھا اور اسے پکار کر کہا۔

”تم رونالڈ اسمتحہ، اس ڈرائیور کے میئے تو نہیں؟“  
جینٹ کے منہ سے اپنا نام سن کر ڈرائیور نے بڑی بیتابی سے رونالڈ کی طرف دیکھا  
جو والٹ سے پیسے نکال کر گئی رہا تھا۔ بڑے جوش سے اس نے ٹیکسی کا دروازہ بند کیا۔

”اوہ تو تم رونالڈ ہو۔ رومنی میرے نخے سے میئے۔“ رونالڈ نے ایک نظر ڈرائیور کو  
پڑالی۔ ایک لمحہ دیکھا رہا پھر بڑی غلت سے جینٹ کا ہاتھ پکڑا۔ دوسرے ہاتھ سے ڈرائیور کو  
کرائے کے پیسے تھامے اور قدم آگے بڑھا دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور دیریکٹ وہاں کھڑا انہیں اس میں  
منزلہ عمارت کے اندر کی بھیڑ میں گم ہوتے دیکھا رہا۔ ☆☆☆

# جب آنکھ کھلی گل کی

داخلے کے تمام مراحل سے گزر کر جب میں نے گھری دیکھی تو واپسی کی گاڑی آنے میں صرف پینتالیس منٹ باقی تھے۔ میں نے سرسری سی اداس نظروں سے چچا میاں کو دیکھا جو سچ ”چرچل“ کی شان بے نیازی سے ہپتاں کے وارڈروں کی معیت میں خراماں خراماں گیلری میں چلے جا رہے تھے۔ بے چارے میرے چچا! بھی چند مہینوں پہلے بالکل نمیک شاک تھے۔ اپنے مختصر سے خاندان کے ساتھ ساتھ وہ بڑی حد تک میرے بھی کفیل تھے۔ مگر خدا جانے کیا ہوا کہ دماغی حالت رفتہ رفتہ خراب ہونے لگی۔ یہاں تک کہ گزشتہ چند ہفتوں سے تو وہ بالکل ہوش و حواس ہی کھو بیٹھے۔ خود کو چرچل کہتے اور طرح طرح کے اوٹ پناگ احکامات صادر کیا کرتے۔ پھر تقریروں کا طویل سلسلہ شروع کر دیتے۔ اور انجام کاران کی شعلہ فشانی کا نتیجہ مار پیٹ پر ختم ہوتا۔ سارے محلے والے جمع ہو جاتے جب کہیں ان پر قابو پایا

جاتا۔ آہ! میرے شفیق چچا جنہیں لوگ باندھ دیا کرتے تھے۔ آخر کار ان کو اس دُور افتادہ شہر کے دماغی ہسپتال میں داخل کرنا ناگزیر ہو گیا۔ بڑی دشواریوں اور سفارشوں کے بعد کہیں داخلے کی اجازت ملی۔ خدا کرے جلد اچھے ہو جائیں، ہسپتال کے بڑے گیٹ سے نکلتے ہوئے میں نے بڑی فکرمندی سے سوچا، اب کیا ہو گا؟ ایک میری نوکری اور وہ بھی عارضی اور پھر صرف ڈھائی سوروپوں میں اتنے بڑے خاندان کی میں کب تک کفالت کر سکوں گی۔

گیٹ سے نکلتے ہی مجھے ایک رکشامل گیا اور میں اپنے تکفرات میں ڈوبی ہوئی اشیشن کو جانے والی سڑک پر ہوئی۔ تمام راستے مجھے اشیشن جلد پہنچنے کی فکر لگی رہی اگر گاڑی نہ مل سکی تو مجھے اس اجنبی شہر میں رات گزارنی پڑے گی۔ کیونکہ دوسری گاڑی کل آئے گی اور صبح مجھے اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہونا ضروری تھا۔

خدا خدا کر کے اشیشن آ گیا۔ رکشے والے کو پیسے دے کر اپنا مختصر سا سوت کیس ہاتھ میں لیے جب میں پلیٹ فارم پر پہنچی تو گاڑی آ چکی تھی۔ میں لپک کر سینکڑ کلاس کے ایک زنانہ ڈبہ میں سوار ہو گئی۔ اس بھاگ دوڑ سے میری سانس پھول رہی تھی۔ جلدی سے سوت کیس سامنے والی برتح پر رکھ کر میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد ما حول کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر قدرے اطمینان ہوا کہ کمپارٹمنٹ نبٹا خالی ہی تھا۔ مخالف سمت والی برتح پر ایک بڑی بی اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھی تھیں اور دوسروں سے زیادہ وہ اپنے پاندان سے دلچسپی لیتی نظر آ رہی تھیں۔ پان کے مقدس انسماں نے انہیں میری طرف دیکھنے کی مہلت نہ دی۔ چلو اچھا ہی ہے۔ میں نے سوچا خدا کرے یہ تمام سفر اسی طرح محور ہیں۔ گاڑی چھوٹے میں صرف تین منٹ باقی تھے۔ میں نے کھڑکی سے باہر اشیشن کی گھما گھمی کا جائزہ لیا۔ اس چھوٹے سے اشیشن پر جس کے مقدر میں صرف دوبار گاڑیوں کا گزرنا لکھا ہوا تھا۔ اس وقت شاید اپنی رونق کے شباب پر تھا۔ پھر یہی اور خواب نچے والے اس مختصر سے وقفے میں اپنی چیزیں جلد از جلد بیچ لینا چاہتے تھے۔ ان کے شور و غل سے اشیشن کی مختصری عمارت گونج رہی تھی بان کے علاوہ کچھ پہاڑی لوگ تھے جو

سردی پر گھریاں رکھے اپنی عورتوں کو اپنی حفاظت میں لیے تھرڈ اور انٹر کے درجوں کی طرف دوڑ رہے تھے۔ اسٹیشن کی چہار دیواری بے باہر حد نظر تک سبزی مائل سیاہ جھاڑیاں اور جنگل، اوپر نیچے نیچے نیلے اور ساکھوا اور ڈھاک کے لمبے اور سیدھے درخت نظر آ رہے تھے جن کے نیچے سرخ مٹی میں سفید پتھر اور درختوں کے ٹھنڈے سائے میں سبز گھاس کے درمیان عجیب سا امتزاجی تاثر پیش کر رہے تھے۔ دور پہاڑیوں پر کہیں کہیں سفید سفید عمارتیں دور سے کھلونوں کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ پہاڑی کی ڈھلوانوں سے گزرتا ہوا راستہ اور اس کے دونوں طرف پتھروں کا سلسلہ بے حد رومانی تھا۔ سینی ٹوریم اور پاگل خانے کے لیے شہرت رکھنے والا یہ مقام کتنا پرکشش ہے۔ اس کے حسن کو بھلا ان دکھوں سے کیا تعلق!

میری سوچوں کا یہ سلسلہ ایک نئے مسافر کی آمد سے بکھر گیا۔ آنے والا ایک لڑکا تھا۔ دبلا پتلا، سترہ اٹھارہ سال کا نو عمر، جس نے کچھ سامان قلی کی مدد سے میرے اوپر والی برتح پر رکھوا یا۔ اس کے پیچھے ایک عورت داخل ہوئی جس کے ساتھ ہی کمپارٹمنٹ میں رنگ اور بوکا ایک سیالب امنڈ آیا۔ وہ میرے قریب کھڑی تھی۔ تینیس یا چوبیس سال کی ایک جوان عورت، نارنجی رنگ کی سائزی میں ملبوس، آنچل شانوں پر پڑا تھا۔ اس کی خوبصورت پشت صندل جیسی چکنی اور سڈول تھی۔ کھلے بازوؤں والے بلا وز میں اس کے بازو بے حد مناسب معلوم ہو رہے تھے۔ بے شکن بلا وز اس کی صحت مندی کی گواہی دے رہا تھا۔

اچانک وہ میری طرف گھومی تو میں نے بڑے شوق سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بڑی مکمل عورت ہے۔ میں نے سوچا اور اپنی برتح پر سرک کر بیٹھ گئی۔ وہ اداں اور قنوٹی سائز کا سامان رکھوا چکا تھا۔ سامان مختصر ہی ساتھا۔ میں نے بڑی دلچسپی سے ذرا قریب سے اس کا جائزہ لینا شروع کیا (در اصل خوبصورت اور بھی ہوئی عورتیں مجھے یوں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں) ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس نے ابھی ابھی سنگھار کیا ہے۔ چہرے پر بلکہ پاؤڑر کی تہہ میں محمل کے روئیں کی سی نرمی اور نزاکت کا عکس تھا۔ اپ اسکے بھی کپڑوں سے میچ کرتی ہوئی بڑی اچھی

لگ رہی تھی بلکہ اس لپ اسٹک نے اس کے ہونٹوں کو تر شے ہوئے یا قوت کی طرح جگمگا دیا تھا۔ کانوں میں لمبے لمبے جڑا و آویزے تھے۔ ناک میں ہیرے کی جگمگاتی ہوئی کیل، کلا یاں کا نچ کی نازک نارنجی چوڑیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ چوڑیاں گرچہ بہت زیادہ تھیں مگر اس کی بھری بھری سڈوں کلائیوں میں بڑی پیاری لگ رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ ہر چیز جو اس کے جسم پر ہے ایسی ہے جو صرف اسی کے جسم پر اچھی لگ سکتی ہے۔ پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ اس کا سارا حسن اس کی غیر معمولی بثاشت اور بے ساختہ اداوں میں مضمرا ہے۔ وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ اتنی مسرت ایک ساتھ یہ کہاں سے سمیٹ لائی۔

مجھے اپنی طرف یوں گھورتے دیکھ کر وہ ذرا شرمائی اور اس کی پلکیں خود بخود جھک گئیں۔ گھنی پلکوں کے سائے میں حد سے زیادہ سیاہ اور چمکیلی آنکھوں سے رہ رہ کر جب بھی وہ پلکیں اٹھاتی، ایک ہلکی سی شعاع جیسے ان میں سے پھوٹتی اور سارے چہرے کو منور کر دیتی۔ کم از کم مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ ان آنکھوں کی بے پناہ چمک اس کے دل میں چھپے ہوئے مسروتوں کے خزانے کی غماز تھی۔ بہر حال کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور تھی ان آنکھوں میں جس نے بے حد متأثر کیا اور پھر مجھے احساس ہوا کہ میں اتنی دیرے سے اس طرح اس کا جائزہ لے رہی ہوں۔ نہ جانے اسے اس کا احساس بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں وہ کیا سوچے۔

”کہاں جائیں گی آپ؟“ یوں ہی ایک سوال میں نے کر دیا۔

”دولت آباد!“ اپنی انگلی میں سرخ مینا کاری کی انگوٹھی کو گھماتے ہوئے اس نے کہا۔ ”مجھے بھی تو دولت آباد ہی جانا ہے،“ میں نے کہا۔ ”چلیے وقت اچھا گزرے گا۔“ ”اچھا آپ بھی وہیں جا رہی ہیں!“ اس نے چہک کر کہا۔ اندر ونی مسرت جیسے دبائے نہ دبے۔ ”دولت آباد میں کہاں جا رہی ہیں آپ؟“ میں نے باتوں کے سلسلے کو ذرا بڑھانے کی خاطر پوچھا۔ ”اپنے گھر!“ اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اس ایک جملے میں آسودگی اور اطمینان کی ایک دنیا آباد تھی۔

”اللہ! تو نے اسے خوشیوں کا خزانہ ہی بخش دیا ہے۔ اس کی تو ہر ادا سے مسرت پھوٹی پڑ رہی ہے۔“ میں نے بڑے رشک سے سوچا اور ضبط کے باوجود میرے منہ سے ٹھنڈی سانس نکل ہی پڑی۔

اس کی شخصیت مجھے بڑی لکش نظر آئی۔ وہ مجسم مسرت تھی۔ اس زمانے میں جبکہ خوشیوں کا قحط عام ہے، آسودگی، طہانیت اور مسرت سے مالا مال یہ شخصیت میری توجہ کا مرکز کیوں نہ بنتی۔ چنانچہ میں سراپا توجہ بن کر اس سے با تمیں کرنے کو اس سے اور بھی قریب آگئی۔ بھینی بھینی لکش خوبصورت نے بڑھ کر میرا خیر مقدم کیا۔ اس کا وجود خود ایک خوبصورت سے بھری ہوئی شیشی جیسا تھا جو اپنی مسرتوں کی خوبصورتی فیاضی سے لثار ہی تھی۔ خوبصورتی کیا چیز ہوتی ہے۔ خالص ہو تو اپنا نقصان کیے بغیر ما حول کو لکش اور شخصیت کو دل آ ویز بنا دیتی ہے۔

گفتگو کا سلسلہ تو ختم ہو چکا تھا۔ اب پھر بات شروع کرنے کے لیے کوئی موضوع نہیں مل رہا تھا۔ وہ مختصر سایر جواب دے کر اپنے وینٹی بیگ میں گم ہو گئی تھی۔ اس نے ایک دستی آئینہ نکال لیا تھا اور بڑے انہاک سے اس میں دیکھ دیکھ کر اپنے بالوں کی بکھری ہوئی لٹوں کو درست کر رہی تھی۔ میں نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے اس کے سینٹ کی تعریف کر دی۔

”بڑی پیاری خوبصورت ہے، آپ کون سا سینٹ استعمال کرتی ہیں؟“

اس نے آئینہ بڑے اطمینان سے اپنی وینٹی بیگ میں رکھ دیا۔ کہنے لگی۔

”پتہ نہیں۔ میں نے آج تک اس کا نام بھی نہیں دیکھا۔ بس وہ ہمیشہ یہی لاتے ہیں۔ شادی کے بعد سے میں نے آج تک ہمیشہ یہی سینٹ استعمال کیا ہے۔“

”اللہ رے خود فراموشی،“ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر بات بڑھانے کو کہہ دیا۔

”بڑے باذوق معلوم ہوتے ہیں آپ کے شوہر!“  
یہ سن کر ایک دم اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ آنکھوں میں دیوالی کے چراغ

جگگا اٹھے۔ گھنی سیاہ پلکوں نے شعاعیں خارج کرنے والی آنکھوں پر گویا پردہ ساڑا دیا۔ تھوڑی دیر وہ کھوئی سی از خود رفتہ سی بیٹھی رہی پھر بولی۔

”پتہ نہیں۔ ذوق کے بارے میں نہیں جانتی۔ مجھے تو ان کی لائی ہوئی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔“ وہ کسی دھیان میں بڑی نرمی سے جس میں حجاب کی بھی پر چھائیاں تھیں مسکرا رہی تھی۔

”دراصل آپ کو ان کی شخصیت سے بہت پیار ہے۔ وہ بھی تو بہت چاہتے ہوں گے آپ کو؟“

یہ سوال خود بخود میری زبان سے چھل پڑا۔ شاید یہ سوال عورت کی فطرت ثانیہ ہے جو کبھی تو ہونٹوں سے باہر آ جاتا ہے اور کبھی بازگشت بن کر دل ہی میں چکر کا شارہ تھا ہے۔

میرے اس سوال پر پھر بہت سے چراغوں کی لوئیں اس کے چہرے کے گرد گردش کرنے لگیں۔ اس کے خوبصورت چہرے سے روشنی سی پھونٹنے لگی۔ اس بار اس کے چہرے پر صرفت کے ساتھ ساتھ فخر کا احساس بھی جگگا رہا تھا۔

اس کی خاموشی پر میں نے اپنے سوال کا بے تکاپن محسوس کرتے ہوئے کہا۔

”معاف کیجیے گا شاید میرا یہ سوال آپ کو برالگا ہو۔“

”نہیں نہیں..... نہیں تو..... برا کیوں لگے گا۔“ وہ اپنے خیالوں سے چونک کر جلدی سے بولی۔

”اس میں برا لگنے کی کیا بات ہے۔ میں تو یوں ہی چپ ہو گئی تھی۔ شوہر بیویوں کو چاہتے ہیں اور میرے شوہر تو بچپن سے مجھ سے وابستہ رہے ہیں۔ ہماری محبت تو ہوش سنجھاتے ہی پنپنے لگی تھی۔“

”بڑی خوش قسمت ہیں آپ،“ میں نے کہا۔ ہر شوہر تو اپنی بیوی سے اتنی محبت نہیں کرتا،“ میری اس بات پر وہ کھل اٹھی اور شاید مارے خوشی کے مجھ سے ایک بے تکا سا سوال کر

”کیا آپ کے شوہرنیں چاہتے آپ کو؟ وہ بھی تو چاہتے ہوں گے؟“ اس سوال پر مارے شرم کے میرے کانوں سے جیسے چنگاریاں نکلنے لگیں پھر فوراً ہی دکھ اور محرومی کے شدید احساس نے شرم کے فطری احساس کا بھی گلا گھونٹ دیا۔ میری نظرؤں میں بے ساختہ اسد کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ اسد جو مجھے اپنی شریک حیات بنانا تو چاہتا ہے لیکن میری ذمہ داریوں کو اپنی زندگی میں شریک کرنے کو تیار نہیں۔ میرے اپنے مسائل کی غمین اور ناقابلٰ تغیر دیوار گزشتہ پانچ سال سے میرے اور اس کے درمیان کھڑی ہے اور اب ہو سکتا ہے اسد کوئی اور منزل تلاش کر لے۔ انتظار کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے۔

اچانک اس کی آواز سے میری سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ سراپا <sup>شگفتگی</sup> بنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں اور ہونٹوں پر شرارت کا ثبسم تھا۔

”آپ تو جیسے اپنے اُن کے تصور میں کھو گئیں!“

”ارے نہیں تو!“ میں نے جلدی سے گھبرا کر جواب دیا۔ میری اس گھبراہٹ پر تو وہ کھل کھلا کر ہنس دی۔ موتی جیسے دانت اس کے چمکیلے ہونٹوں پر اپنا عکس چھوڑ گئے۔ اس طرح ہنستی ہوئی وہ مجھے اور بھی اچھی لگی۔

”واقعی تم چاہے جانے کے لائق ہو،“ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر باتوں کا رخ بدل دیا۔

”دولت آباد آپ کامیکہ ہے یا سرال؟“

”دونوں،“ اس نے جواب دیا ”میری شادی میری پھوپھی کے لڑکے سے ہوئی۔ ابھی یہ چھوٹے ہی تھے کہ پھوپھی اور پھوپھا دونوں ختم ہو گئے۔ چنانچہ امی اب ان کی پرورش کی اور پھر جب میری پیدائش ہوئی تو امی نے ان سے منگنی کر دی۔ ٹھیکرے کی منگنی کا دستور ہمارے بیہاں عام ہے۔ پھوپھی نے اپنی زندگی ہی میں مجھے مانگ لیا تھا۔ چنانچہ اسی خیال

سے امی نے منگنی بھی کر دی۔ شاید انہیں ہم سے جدا ہونا تھا اس لیے وقت سے پہلے انہوں نے یہ فرض انجام دے دیا۔

”تو آپ کی امی بھی بچپن ہی میں انتقال کر گئی تھیں؟“ میں نے پوچھا۔

”جی ہاں!“ مختصر سا جواب دیتے ہوئے وہ بھی اداں ہو گئی۔

”شکر ہے آپ کے والد زندہ ہیں۔ خدا انہیں سلامت رکھے“ میں نے تلخ ذکر کو ختم کرنا چاہا۔ میرے اس جملے پر اس کے چہرے پر سیاہی سی دوڑگئی۔ کہنے لگی۔

”یہ سہارا بھی میری قسمت میں نہ رہا۔“ اس کی آواز دکھ سے لرز رہی تھی ”والذن بڑے ارمان سے میری شادی کی اور ڈیڑھ سال بعد ہی جب میں ماں بننے کے خوش آئند تصور سے سرشار تھی کہ اچانک یمار پڑی اور اسی یماری میں مجھے اس بچے کی موت کا صدمہ بھی اٹھانا پڑا جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ جسمانی اور روحانی اذیتوں نے مجھے بے حد نڈھاں کر دیا تھا۔ ایک دن صبح جب میں اسپتال ہی میں اس خوشی کا ماتم کر رہی تھی جو میری طرف دونوں ہاتھ پھیلائے ہمک رہی تھی، لیکن میری گود میں آتے آتے آسمان کی طرف پرواز کر گئی، میری آنکھیں اور دل ابھی اسی صدمے سے اشکبار تھے کہ معلوم ہوا کہ میرے ابا جان پر فانج کا دورہ پڑا ہے اور وہ بیہوش ہیں۔ جسم میں اٹھنے کی سکت نہ تھی۔ میں اپنی کھوئی ہوئی طاقت کا انتظار کرتی رہی لیکن ابا جان نے میرا انتظار نہ کیا.....“

باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھوں کے سارے چراغ جیسے بجھ گئے۔ چہرے پر زردی چھا گئی اور ان خوبصورت آنکھوں میں عجیب قسم کی وحشیانہ چمک پیدا ہو گئی وہ چہرہ کچھ عجیب سا بن گیا۔ مجھے بے ساختہ چچا میاں یاد آگئے۔ بڑی دیر بعد۔ اس وقت اس حسین چہرے پر دیسی ہی وحشیانہ چمک تھی جو چچا جان پر باتیں کرتے کرتے دورہ پڑ جانے پر نظر آتی تھی۔ اس مہماں کی بظاہر کوئی وجہ نہ تھی۔ مجھے اس خیال کا بے تکا پن محسوس کر کے بڑی خفتی محسوس ہوئی۔ بھلا کہاں چچا میاں کا خوفناک چہرہ اور کہاں حسن کی آب و تاب سے جگمگاتا

ہوا یہ بشاش چھرہ۔ دونوں میں کتنا فرق ہے۔

”بے چاری پر اب تک ان واقعات کا گھر اثر ہے“ میں نے بڑے دکھ سے سوچا۔

”واقعی دنیا میں خوشی بڑی گراں ہوتی ہے۔“

ایک لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ خود بخود پھر سے با تمیں کرنے لگی۔ شاید انسان دوسروں کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار کر کے طمانتی حاصل کرتا ہے۔ کبھی کبھی تلخ یادوں کو کریدنا بھی دل کے زخموں پر پھایا رکھنے کے متراوف ہے۔ شاید وہ بھی سب کچھ کہہ کر اپنا دل بلکا کرنا چاہتی تھی۔

”امی کے بعد ابا جان نے کبھی مجھے محرومی کا احساس نہیں ہونے دیا۔“ وہ جیسے اپنے

آپ سے بولی۔

”سارے لاڈ پیار اور ضدیں پوری کرتے رہے۔ بچپن میں تو خیر ہتھیلی کا چھپھولا بُنی رہی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری شادی سے کچھ دنوں پہلے تک اکثر راتوں کو نیند ٹوٹتی تو دیکھتی ابا میرے کمبل کو میرے جسم پر برابر کر رہے ہیں یا مسہری کا پردہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ جب میں انہیں منع کرتی تو کہتے ”بیٹی! اس کے بغیر مجھے نیند ہی کب آتی۔“ یہ تو میرا روزانہ کا معمول ہے، بولتے بولتے وہ اچاک ادا سی ہو گئی۔ اس کے روشن چہرے پر تاریک سائے لہرانے لگے۔

”زندگی ان دنوں کتنی سبک رواں اور مترنم تھی۔ جیسے پہاڑی کے دامن میں بہتے ہوئے نرم رو جھرنے، صاف شفاف اور رواں دواں“ وہ پھر کہنے لگی ”میں، ابا جان اور فاروق، زندگی ایک مثلث کے تین زاویوں میں سمٹ آئی تھی۔ کس ارمان سے انہوں نے میری شادی کی۔ ہر وقت بچوں کی طرح مسروبد ہا کرتے۔“

وہ کھڑکی سے باہر اونچے اونچے پہاڑوں، شاداب وادیوں اور جا بجا پہاڑیوں کی دراڑوں میں سے ابنتے ہوئے شفاف پانی کے چشمیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔

”ہماری خوشیوں کے تمام خواب مشترک ہوا کرتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ تم ناؤں کا وہ پھول جو پھول بننے اور اپنی خوشبو سے ہمارے دل و دماغ کو معطر کرنے سے پہلے ہی شاخ سے گر گیا اس کی آرزو میں بھی ابا ہمارے شریک تھے۔ کھلونوں اور ننھی ننھی چیزوں سے انہوں نے کمرہ بھر دیا تھا۔ چھوٹی سی ایک مسہری بھی بنوالی تھی انہوں نے ..... مگر یہ سب کچھ ایک خواب تھا جو بیدار ہونے پر ختم ہو گیا ..... بہر حال وہ بے چارہ بھی کم انمول نہیں۔ میرا شریک زندگی فاروق اس صدمے میں میں اسے بھی فراموش کر بیٹھی تھی۔ کتنی ظالم ہوں میں۔ یہ شاید وہی زمانہ تھا جب دشمن نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تھا ”وہ ذہن پر زور دال کر سوچتے سوچتے بولی ”اور فاروق کو جنگ میں اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے جانا پڑا، وہ ایز فورس میں تھا“، وہ بولے جا رہی تھی مگر یوں جیسے خواب میں بول رہی ہو۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی جذباتی معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس مرغزار کے نیچے یا آتش فشاں بھی تھا۔ میں نے حیرت سے سوچا۔

اچانک وہ کچھ مضطرب سی ہو گئی کہنے لگی ”نه جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی سلامتی کے لیے کبھی دعا بھی نہیں مانگی، وہ کتنی محبت سے مجھ سے رخصت ہوا تھا۔ نہ جانے بے چارے پر کیا گزری ہو۔ میری بیماری نے یوں ہی اسے دیوانہ سا کر دیا۔ اس کے اندر وہی اضطراب کا اندازہ اس کی بے چین آنکھوں اور حرکات سے ہو رہا تھا۔ وہ بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ میں اس کی اس کیفیت سے بہت متاثر ہوئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اسے تسلی دوں۔ آخر کار میں نے کہا۔

”خیر کوئی بات نہیں۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ آپ کے شوہر ہیں۔ وہ آپ کے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ خدا ان کی زندگی اور ان کا پیار قائم رکھے۔ آپ کے پاس خوشیوں اور مسرتوں کی کمی نہ ہو گی۔ بچے تو پھر بھی ہو جائیں گے۔ انشاء اللہ۔ رہے والدین تو وہ بھی دیریا سویر ساتھ چھوڑ رہی دیتے ہیں۔“

شہر کا نام سن کروہ خاموش ہو گئی جیسے اسے سکون شامل گیا۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ دراصل اس مجسم مسرت کو اندوہ گیس دیکھ کر مجھے دکھ ہوا تھا۔ وہ اب بھی خاموش نظریں جھکائے اپنی انگلیوں سے نیل پالش کھڑج رہی تھی۔ اس کے گالوں پر لرزتے ہوئے پلکوں کے سائے میں بیٹتے ہوئے دنوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ ایکسپریس ٹرین چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں کو چھوڑتی ہوئی تیزی سے بھاگتی جا رہی تھی۔ باہر شیلیفون کے تار، کھبے، اوپنچے نیچے درخت سب جیسے بھاگے جا رہے تھے۔ پھر گاڑی غالباً کسی جنگشن پر رکی۔ کچھ پرانے مسافر اترے اور نئے سوار ہوئے۔ بڑی بی جوسارے راستے پان کھاتی رہی تھیں یا سوتی رہی تھیں مع اپنے پانداناں کے اتر گئیں۔ ان کی جگہ ایک دوسری عورت اپنے بچوں کے ساتھ اسی برتحہ پر آ بیٹھی۔ بچوں نے موگنگ پھلی اور کیلے بے تحاشا خریدنا شروع کر دیے۔

ہم لوگ اسٹیشن کی چہل پہل دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ عورت بھی کھڑکی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسی وقت وہ اداں اداں سالٹ کا بھی آ گیا۔ کچھ دیر عجیب نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ ”ذرائن کا خیال رکھیے گا یہ بیمار ہیں۔“ میں نے حیرت سے پہلے لڑکے کو اور پھر عورت کو دیکھا۔ لفظ بیمار خود لڑکے کے لیے زیادہ موزوں تھا۔ عورت کے چہرے پر تازہ چھلی ہوئی نارنگی کی سی تازگی اور شلگفتگی تھی۔ مگر لڑکے کا چہرہ جذبات سے جیسے عاری تھا۔ میں ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ ڈبے سے اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا تھرماں تھا۔ اس نے چائے کے لیے پوچھا میں نے گھری کی طرف دیکھا۔ اب تو منزل قریب ہی ہے۔ مگر وہ چائے کا آرڈر دے آیا تھا۔

”آپ کا یہ دیور آپ کو بہت چاہتا ہے،“ میں نے مسکراتے ہوئے کہا ”کہہ رہا تھا آپ بیمار ہیں۔“

”کہیں بھی بیمار نہیں،“ وہ حیرت سے بولی ”اب تو میں بالکل اچھی ہوں۔ یہ تو اسپتال والوں کی زبردستی ہے جو مجھے اتنے دنوں بیمار بنائے رکھا۔“

”اکلوتا دیور جو ٹھرا۔“ وہ میری بات پر ہنس کر بولی ”ان کا بڑا لاؤ لا بھائی ہے یہ“ وہ اسے بڑے پیار سے دیکھنے لگی۔ ”در اصل اس وقت ان کو اپنے بھائی کی قائم مقامی کا اعزاز بھی تو ملا ہوا ہے۔ کچھ زیادہ ہی فرض شناس بنے ہوئے ہیں۔“

ہم دونوں نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ بس ذرا سامسکرا کر رہ گیا۔ شاید اسے یہ ذکر اچھا نہ لگا اور پھر وہ اپنے کپارٹمنٹ میں چلا گیا۔ اس نے بڑے پیار سے لڑکے کو جاتے ہوئے دیکھا۔ کہنے لگی ”اب تو کافی بدلتا گیا ہے ورنہ پہلے بڑا کھلنڈ را اور لا پروا ساتھا۔ یہ عمر ہے بھی تبدیلیوں کی۔“

مجھے تو یہ لڑکا ذرا بھی اچھا نہ لگا۔ خاک کھلنڈ را ہو گا۔ صورت پر تو محرم برس رہا تھا۔ میں نے جل کر سوچا۔ مجھے تو ایسا لگا جیسے اسے اپنے بھائی سے بھی محبت نہیں۔ بھائی کا ذکر ہی سن کر چل دیا۔ یہ عورت بڑی نیک دل معلوم ہوتی تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ اسے بھائی سے بڑی محبت ہے۔ بعض چھوٹے بھائیوں کو تو شروع ہی سے بڑے بھائیوں کے گھر میں غیر معمولی اقتدار سے حسد ہو جاتا ہے اور جوانی تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ممکن ہے یہ ایسا ہی بھائی ہو۔ پھر مجھے اس کا ”ذر اان کا خیال رکھیے گا“ یاد آیا تو میں نے سوچا کہ ممکن ہے یہ محض بھائی سے ”غیر معمولی“ دلچسپی کا نتیجہ ہو۔ وہ تھی بڑی پُرکشش۔

بیرا چائے لے کر آگیا اور میرے خیالات کا تاریخ گیا۔ اس نے بڑے اصرار کے ساتھ مجھے بھی چائے اور سکٹ میں شریک کیا۔ اس کے چہرے پر وہی شادابی پھر لوٹ آئی تھی اور ایک بچے کی طرح خوشی سے چہک رہی تھی۔ چائے پینتے پینتے گاڑی چل پڑی۔ با توں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ دواجنیوں کے درمیان مسلسل باتیں کرتے رہنے کا امکان ہی کہاں تھا۔ ابھی دو گھنٹے اور گزارنے تھے۔ چار نئے چکے تھے اور چھنچ کر میں منٹ پر کہیں گاڑی کو دولت آباد پہنچنا تھا۔ میں نے سوٹ کیس کھول کر اپنی وہ کتاب نکالی جو میں پچھلے ایک ہفتے سے پڑھ رہی تھی۔ ذہنی الجھنوں کے باعث اتنی دلچسپ کتاب بھی ختم نہ ہو پائی تھی۔ آدمی کتاب

میں اوراق کے درمیان جہاں میں نے نشان لگا کر چھوڑ دیا تھا وہیں سے پھر شروع کیا۔

میں کتاب کی دلچسپیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسی وقت میرے پیروں کے پاس گلابی ربن سے بندھا ہوا لفافوں کا ایک پیکٹ کہیں سے گرا۔ اس میں سے خوبصورت آرہی تھی۔ اسی سینٹ کی خوبصورتی سے اس کا اپنا وجود بسا ہوا تھا۔ وہ سوت کیس کھولے کچھ نکال رہی تھی۔ جب ہی پیکٹ گرا۔ میں نے پیکٹ اسے تمہادیا۔ لیکن اب میرا دل کتاب میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں چوری چوری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے پیکٹ کھول دیا تھا۔ تمام لفافوں پر ترتیب وار نمبر پڑے ہوئے تھے۔ اس نے بڑے انہماں سے انہماں کے ساتھ انہیں کھول کھول کر ترتیب دیا اور پھر پڑھنے لگی۔ بعض خطوط وہ دو دو بار پڑھتی۔ اس کے چہرے پر خوبصورتوں کی گلابی چھلک رہی تھی۔ کبھی کبھی اس کا چہرہ کان کی لوؤں تک تتما جاتا۔ میں بظاہر کتاب کھولے ہوئے تھی لیکن میری نگاہیں اس کے دلچسپ مشغله کا جائزہ لے رہی تھیں۔ چند خطوط پڑھنے کے بعد اس نے بڑی احتیاط سے انہیں انہیں لفافوں میں بند کیا جن میں نمبر لگے تھے۔ میں بڑی رشک آمیز دلچسپی سے اس کے دلچسپ شغل کو دیکھ رہی تھی۔ خطوط کا پیکٹ بند کرنے کے بعد اس نے ایک لمبا لفافہ نکالا۔ اس میں سے بڑے بہائز کی ایک تصویر نکالی اور اس میں کھوئی۔

وہ کسی خوبصورت اور وجہہ جوان کی تصویر تھی۔ ایریورس کی وردی میں ملبوس۔ میں نے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھا۔ میری چوری اس سے چھپ نہ سکی۔ اس نے مجھے چکے چکے دیکھتے دیکھ لیا۔

”یہ آپ کے شوہر کی تصویر ہے شاید؟“ میں نے برجستہ سوال کر دیا۔

اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی محبت پاش نظر میں تصویر پر جھک گئیں۔ کچھ نہ کہہ کر بھی اس نے ایک ادائے دلبڑی سے میرے سوال کا جواب دے دیا تھا۔ اس کا چہرہ کچھ اور سرخ ہو گیا تھا۔ وہ شرم رہی تھی۔ کمٹی جا رہی تھی نئی دلہنوں کی طرح۔ اس کی نگاہیں جیسے تصویر سے گزر کر تصویر تک جا پہنچی تھیں اور ماضی کے رنگیں لمحوں کے سرور سے مدھوش ہوئی جا رہی

تھی۔ سرشاری کے اس عالم میں وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے تصویر کی تعریف کی اور ساتھ ہی اسے چھیڑا۔ ”بس اب یہ بے قراری ختم ہی سمجھیے۔ صرف دو گھنٹے بعد ہی تو وہ مل جائیں گے۔ آپ کو لینے اشیش تو آئیں گے نا؟“

”ضرور آئیں گے“، اس نے جھینپ کر تصویر لفافے میں رکھ دی اور سوت کیس بند کرتے ہوئے بولی ”وہ تو بے چین ہوں گے مجھ سے ملنے کے لیے۔ خدا کرے اچھے ہوں۔ جنگ کی سختیاں سہہ کر آئے ہیں۔“

”توجب سے آپ ان سے ملی ہی نہیں؟“، میں نے بے ساختہ پوچھا۔

”جنگ ختم ہونے سے پہلے کیسے مل سکتی تھی۔ میں لاکھ چاہتی سہی لیکن وطن کی آبرو کی حفاظت مجھ سے زیادہ ان پر فرض تھی۔ وہ ہمیشہ ہی یہی کہتے تھے۔“

”بہر حال جنگ ختم ہوئے بھی کئی سال گزر گئے۔“

”ہاں ایسا لگتا ہے جیسے صدیاں بیت گئیں۔“، اس نے خوابناک سے لبھے میں کہا۔ میں نے اس کے اس شاعرانہ انداز کو دل ہی دل میں سراہا۔ واقعی محبوب کے بغیر گزارا ہوا زندگی کا ہر لمحہ سینکڑوں برس کا ہوتا ہے۔

”کوئی بات نہیں“، میں نے کہا ”ہجر کی یہ گھریاں ختم ہونے کو ہیں۔ آپ کی بے قراری بھی ختم ہو جائے گی اور ان کو بھی سکون مل جائے گا۔“

اس نے گھری دیکھی اور اپنا سامان ترتیب دینے لگی۔

”ابھی تو کوئی ڈریڈھ گھنٹے باقی ہیں۔ کچھ دیر آرام سے بیٹھیے۔“، میں نے کہا اور وہ اپنی جلد بازی پر کچھ محبوب سی ہو کر بیٹھ گئی۔

”دولت آباد میں آپ کہاں رہتی ہیں؟“، یہ پہلا سوال تھا جو اس نے براہ راست مجھ سے کیا۔

”سبری منڈی میں“، میں نے جواب دیا ”اور آپ؟“

”سول لائن“ وہ بولی ”ہمارے بنگلے کا نمبر 23 ہے۔ آئیے گا کسی روز۔ فاروق سے مل کر آپ کو مایوسی نہیں ہو گی۔ بہت دوست نواز اور Jolly ہیں۔“

ذرادیر بعد کہنے لگی۔ میں آپ کو وہ پودا دکھاؤں گی جو شادی کے بعد میں نے فاروق کے ساتھ مل کر لگایا تھا۔ لان کے بچوں بیچ تاکہ اس کے سامنے میں ہم شام گزار سکیں۔ بڑے ہونے پر جب اس میں گل مہر کے سنہرے اور چمپی چھوٹیں لگیں گے تو ہم وہاں شام کی چائے پینیں گے، وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ پھر کہنے لگی۔ ”گیٹ پر جیسمین کی بیل ایک طرف میں نے اور دوسری طرف فاروق نے لگائی تاکہ دونوں بڑھ کر آپس میں مل جائیں۔

اس نے کہا تھا کہ ”اس طرح ہماری محبت کی علامت گھر کے باہر ہی سے دیکھی جاسکے گی۔“

وہ کہتے کہتے رک کر خاموشی سے خلا میں گھورنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں مسرت اور حیرت کی چمک تھی۔ جیسے وہ یہ سوچ رہی ہو کہ جیسمین کے دوالگ الگ پوڈے جنم کی جزیں الگ ہوں کس طرح بڑھ کر ایک ہو جاتے ہیں۔ یوں کہ انہیں علیحدہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔

”جانے وہ سب اب کس حال میں ہے،“ وہ جیسے اپنے آپ سے بولی۔ ”خیر ہم دونوں مل کر اسے پھر ٹھیک کریں گے۔ پھر سب کچھ سجائیں گے،“ اس کی آنکھوں میں نئی دلہنوں کی طرح سنہرے خواب نظر آ رہے تھے۔ اس نے اپنے گھر کا ذکر کرتے ہوئے فرط مسرت سے میرا باتھ بے ساختہ پکڑ لیا۔ ان ہاتھوں میں محبت کی کیسی حرارت تھی۔

”ہم پھر سے پچھلے تمام دکھوں کو بھول کر نئی زندگی شروع کریں گے،“ وہ کہہ رہی تھی۔ ”آپ ہماری خوشیوں میں شریک ہونے آئیے گا نا؟“

”ضرور آؤں گی۔“ میں نے اس کی بچوں کی مسرت سے لطف اٹھاتے ہوئے کہا۔

”میں آپ کا گل مہ اور جسمیں ضرور دیکھوں گی۔“

”گل مہر آپ کو بھی پسند ہے نا۔ مجھے تو ہمیشہ سے اچھا لگتا ہے۔“ وہ چیک رہی تھی۔  
اتنی دیر میں کافی بے تکلف ہو چکی تھی۔ کہنے لگی ”مارچ اپریل کی خوبصورت شامیں ہم انہیں  
درختوں کے نیچے ٹہلتے ہوئے گزارتے تھے۔ زین ان کی پنکھڑیوں سے سونے کی طرح چمکتی۔  
جب ہم گھر آتے تو ہمارے بالوں میں اس کی سبھری پنکھڑیاں انکی ہوئی ہوتیں۔ ہم ایک  
دوسرے کے سرے انہیں چن چن کر نکالتے۔ یہ یکجا یہ سانسوں کی یہ قربت کہ ایک دوسرے  
کے دل کی دھڑکن بھی سن سکیں۔ کتنی مسروکن تھی ”دہ حد درجہ جذباتی ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں  
جیسے خواب سے اتر رہے تھے۔

”مجھے تو وہ چند لمحے سب سے قیمتی معلوم ہوتے تھے،“ ایک خود فراموشی کے عالم میں  
اس نے کہا۔

اتنی دیر میں مجھے اس اجنبی عورت سے کتنا قربت ہو گئی تھی۔ کچھ عجیب سی وابستگی کا  
احساس تھا کہ میں اس کے خوبصورت شوہر، خوبصورت گھر اور خوشگوار زندگی کے تصور میں اپنے  
تمام مسائل بھلا بیٹھی۔ یہ عورت ایک خوشگوار حقیقت کی طرح میرے حواس پر طاری ہو گئی تھی۔  
ہم دونوں ہی اپنے اپنے خیالات میں کھو گئے۔ گاڑی اپنی مخصوص رفتار سے چلی جا رہی تھی۔  
ہم دونوں ہی شام سے ملکے اندر ہیرے میں اپنے اپنے خیالات میں گم تھے۔

گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی۔ ہماری منزل آپنچی تھی۔ میں اپنے خیالات سے  
چونک کراپنا سامان درست کرنے لگی۔ سامان ہی کیا تھا۔ کھلی ہوئی کتاب سوٹ کیس میں رکھی  
اور بند کر دیا۔ اس نے بھی اپنے خطوط اور تصویریوں کے پیکٹ سوٹ کیس میں بند کیے اور تو یہ  
لے کر جلدی سے با تھرودم میں داخل ہو گئی۔ گاڑی ریلوے یارڈ کے قریب آپنچی تھی اور جب  
تیزی سے پڑیاں بدل کر اسٹیشن کے احاطے میں داخل ہی ہونے والی تھی کہ وہ با تھرودم  
سے برآمد ہوئی۔ وہاں شاید اس نے اپنی ساڑی کے فال ٹھیک کیے تھے کیونکہ اب وہ بڑی

اسمارٹ نظر آ رہی تھی اور جب ایک نظر میں نے اس کے چہرے کی طرف اٹھائی تو چہرے پر ہلکے ہلکے پاؤڈر کی تہہ بڑی خوش اسلوبی سے جمی نظر آئی۔ لپ اسک بھی لگائی تھی اس نے اور بال بھی درست کر لیے تھے، راستے کی تکان کا اثر زائل ہو چکا تھا اور وہ پھر ولیٰ تروتازہ، شگفتہ اور شاداب تھی جیسی گاڑی میں آئی تھی۔ گاڑی اب طویل پلیٹ فارم پر رینگتے رینگے رکنے کے لیے آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے سراپا پر ڈالی، پُر شکن ساڑی اور بکھرے ہوئے بالوں کو ہاتھ ہی سے درست کیا۔ آخر اس کی ضرورت بھی کیا تھی۔ کون سا کوئی میرے استقبال کے لیے آ رہا تھا۔ اس نے اپنا سامان اٹھا کر بر تھ پر رکھ لیا تھا اور بڑے اضطراب سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔

گاڑی رک گئی تھی وہ اپنی مجس نگاہوں سے پلیٹ فارم کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے اپنا چھوٹا سا سوت کیس اٹھایا اور اس سے رخصت ہو کر اور آنے کا وعدہ کر کے جلدی سے اتر گئی۔ مجھے گھر پہنچنے اور چچا میاں کے داخلے کی رو دادا می اور بہنوں کو سنانی تھی۔ پلیٹ فارم کی بالچل سے بے نیاز جلد سواری حاصل کرنے کی دھن میں تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ اجنبی عورت جو سارے راستے میرے حواس پر طاری رہی کچھ دیر کے لیے میرے ذہن سے محو ہو گئی تھی۔ رکشہ اسٹینڈ پر خلاف موقع کسی سواری کا پتہ نہ تھا۔ میں انتظار میں کھڑی تھی کہ وہی عورت اور وہ لڑکا آگے پیچھے آتے نظر آئے۔ تب میری نظروں نے ایک تیرے چہرے کو بھی تلاش کیا۔ مگر وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ لڑکا سامان رکھ کر نیکسی کی تلاش میں جانا چاہتا تھا اور وہ مصروف تھی کہ نیکسی ویکسی کی ضرورت نہیں ”ذر اسٹہر جاؤ وہ گاڑی لے کر آتے ہی ہوں گے۔“ لڑکا بھی صدی تھا کہ نیکسی ساٹھر جاؤ گے تو کون سا نقصان ہو جائے گا۔ ممکن ہے کسی مصروفیت میں دیر ہو گئی ہو۔

”بھابی وہ نہیں آ سیں گے۔ دیر کرنے سے کیا فائدہ؟“ لڑکا اپنی ہی بات پر اڑا ہوا

تھا۔

”ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ نہ آئیں، وہ بولی ”بس پانچ منٹ شہر جاؤ۔“

لڑکے نے بڑی بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑگئی وہ لپک کر میرے قریب آگیا اور بڑی لجاجت سے بولا ”خدا کے لیے آپ ہی ذرا بھالی کو سمجھائیے نا۔“

”آخر آپ انہیں ٹیکسی پر جانے کے لیے کیوں مجبور کر رہے ہیں۔“ میں نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے نرمی سے کہا۔

”وہ اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو تھوڑا انتظار کر ہی لیجیے۔ اگر آپ کے جانے کے بعد وہ یہاں آئیں گے تو خواہ مخواہ.....“

”کون آئیں گے؟ میرا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ بول پڑا“ وہ جس شوہر کا انتظار کر رہی ہیں انہیں شہید ہوئے چوتھا برس ہے۔“ لڑکے کی آواز بھرا گئی۔ اتنی گلبیہر آواز جیسے میرے کانوں میں کسی نے لہکتے انگارے ڈال دیے ہوں۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حرتوں کے سوا کچھ نہ تھا اور پھر مجھے ان ہزاروں سینوں کا خیال آیا جو اس کی بھاونج آنکھوں میں سجائے شوہر سے ملنے جا رہی تھی۔

”انتنے بڑے الیے کی انہیں خبر تک نہ دی!“ میں نے آہستہ سے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔

”یہ تو دماغی امراض کے اسپتال سے واپس آ رہی ہیں۔ ٹائیفائیڈ میں بتلا تھیں یہ اس وقت جب ان کے والد کی موت کی خبر آگئی اور بخار کی شدت میں باپ کی موت کی خبر نے انہیں سچ پاگل کر دیا۔ ان ہی دنوں جنگ چھڑ گئی۔ چنانچہ میرے بھی انہیں اسپتال میں داخل کر کے جنگ پرروانہ ہو گئے تھے۔ ان کی شہادت کی خبر جب آئی تو یہ رو بصحت تھیں ڈاکٹر نے منع کیا کہ بالکل اچھی ہو جائیں تو یہ خبر انہیں آہستہ آہستہ سنائی جائے ورنہ شدید ذہنی جھٹکا انہیں پھر پاگل کر دے گا۔“ لڑکا خاکہ موش ہو کر پھر اس کی طرف چلا گیا۔ میرا ذہن بوجھل ہو رہا

تھا۔ ایسا خلانظر آ رہا تھا جیسے ہر طرف سناٹا ہو گیا ہو۔

خزاں کی اداں شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ پرندوں کے جوڑے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف پرواز کر رہے تھے اور وہ بدستور دور مغرب سے آنے والی سڑک پر نگاہیں گاڑے اپنے شوہر کی گاڑی کے نمودار ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میری طرف اس کے چہرے کا وہ حصہ تھا جس طرف اس کی ناک کی کیل پوری آب و تاب سے جگمگار رہی تھی۔ لیکن مغرب سے آنے والی سڑک کے اختتام پر کچھ نہ تھا۔





نام : حسانہ امیں

والد کا نام : پروفیسر محمد مسلم عظیم آبادی

پیدائش : ہزاری باغ، جھارکھنڈ۔ (بھارت)

12/ جولائی 1939ء

انقال : 7/ جولائی 2003ء (کراچی)

تعلیم : ادیب کامل (علی گڑھ یونیورسٹی)

ایم اے، اردو (ڈھا کا یونیورسٹی)

پیشہ : درس و تدریس (محکمہ تعلیم حکومت سندھ)

گورنمنٹ اسلامیہ کالج برائے خواتین، کراچی

گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس، کراچی

پرنسپل گورنمنٹ گرلز کالج اور نگی ٹاؤن، کراچی

ریٹائرمنٹ : 11/ جولائی 1999ء بہ حیثیت ایسوی ایٹ پروفیسر

آخری ملازمت بعد از ریٹائرمنٹ: پرنسپل Axis گرلز کالج، بہادر آباد، کراچی

ایوارڈز : بیست ٹھیکر آف دی ایئر۔ 1980

اعلیٰ تدریسی، ادبی اور انتظامی خدمات کے صلے میں سندھ پروفیسر زائیڈ یکچر رز

ایسوی ایشن کی جانب سے 1997ء میں اور کالج پرنسپلز ایسوی ایشن کی جانب

سے 1999ء میں شیلڈز عطا کی گئیں۔